

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

جنگی اسکیم

عبدالباری ایم۔ اے

نفاشران وقتا جران کتب
نفاصل
عزنی شریٹ، اردو بازار، لاہور

DATA ENTERED

۲۹۷۶۹۹۲۱

م ۲۸ رس

۲-۲۷۸۰۱

۲۷۸۰۱

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب: رسول کریم کی جنگی اسکیم

مطبع: سندھ ساگر پرنٹرز۔ لاہور

طبع: اول ۱۹۸۶ء

تعداد: ۵۰۰

قیمت: ۳۶

فہرست مضامین

۵	پیش لفظ
۷	رسول کریمؐ کی جنگی اسکیم
۲۲	رسول کریمؐ کی ہجرت
۲۹	جنگ بدر
۴۳	بنو قینقاع کے ساتھ جنگ
۴۷	غزوہ سویق
۴۹	جنگ اُحد
۸۱	سریہ حمراء الاسد
۸۹	بنو النضیر کے ساتھ جنگ
۱۰۱	بدر الصغریٰ کی مہم
۱۰۵	غزوہ مریسج یا بنی مصطلق
۱۰۹	غزوہ احزاب یا جنگ خندق
۱۳۷	بنو قریظہ کے ساتھ جنگ

۱۴۱

صلح حدیبیہ

۱۴۵

غزوہ ذی قردیا غزوہ غابہ

۱۵۱

جنگِ خیبر

۱۶۹

غزوہ وادی القریٰ اور فدک

۱۷۱

ادائے عمرہ

۱۷۳

جنگِ موتہ

۱۷۷

فتح مکہ

۱۸۳

جنگِ خین (ادطاس) اور محاصرہ طائف

۱۹۹

غزوہ تبوک

۲۰۷

حج اکبر

۲۰۹

رسول کریم کی جنگوں کا جائزہ

۲۱۳

حجۃ الوداع (حجۃ البلاغ)

۲۱۵

کتابیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول کریمؐ کی جنگی اسکیم

55
55
55

جنگ، اور جنگی اسکیم سے خوفزدہ ہونے کی نہ ورت نہیں! تفصیلات کا مطالعہ خود بتاتا ہے کہ جنگوں کا سلسلہ رسول کریمؐ کے آسودہ حسہ کا ایک اہم اور نہایت ہی سبق آموز باب ہے۔ کیوں؟ اور کیسے؟

آپ کی جنگوں کی نوعیت اور وجوہ

(ALBERT MURREY) امریکہ کے ایک مصنف

(البرٹ مرے) نے جو گزشتہ دو جنگوں کا تجربہ کا

اپنی تصنیف (PSYCHOLOGY OF WAR AND PEACE) سائکالوجی آف وارا اینڈ پیس میں لکھا ہے کہ تاریخ اور قوموں کا نفس مزاج اس حقیقت کو ہمیشہ جھٹلاتا رہا ہے کہ کسی قوم کی کم تعداد اس کی کیفیت کو بھی گھٹا دیتی ہے۔ اپنے حقوق کی حفاظت، جنگ میں کامیابی، اخلاق اور سیاسی غلبہ اور قومی عظمت کے لیے بڑی تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جماعت کثیر تعداد پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ تھوڑے لوگ بڑی بڑی فوجوں کو مار بھگاتے ہیں۔ ایک معمولی گروہ بڑے گروہ کو زیر کر لیتا ہے۔ دراصل تعداد کسی وقت بھی فیصلہ کن جوہر ثابت نہیں ہوتی۔ مقصد براری اور کامیابی کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر تھوڑی تعداد میں پائے جائیں تو میدان ان ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جو جاؤ تھوڑی تعداد کو حاصل ہوتا ہے وہ بڑی تعداد میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

ماہر جنگ و ماہر نفسیات کے ان الفاظ پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ یہی بات تقریباً ۳ ہزار برس پہلے (۲۰۰۰ ق م تا ۱۰۰۰ ق م) طاقت کے آدمیوں نے کہی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جب طاقت اور اس کے ساتھیوں نے کہہ دیا کہ آج ہم میں جاوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً
كَثِيرَةً آيَا ذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ (البقرہ)

بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے
اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا
ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

آخر کار انہوں نے کافروں کو شکست دی اور ان کی فوج کے ایک نوجوان داؤد نے جو اس وقت
کسن نوجوان تھے زبردست پہلوان جاوت کو بھی قتل کر دیا۔

صرف فرق یہ ہے کہ ماہر نفسیات بحوالہ کو ضروری قرار دیتا ہے اور قرآن اُسے اذن اللہ
اور صبر کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ اگر صبر برقرار رکھا جائے تو خدا اپنے کمزور
بندوں کو حق کی راہ میں ہمیشہ غالب رکھتا ہے ایک مومن کے اندر ضرور جماد اور استقامت
پیدا کر دیتا ہے۔ وہی اللہ جس کے اذن سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے دشمن سے مقابلہ کے لیے
ہر امکانی قوت کی فراہمی کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد ہی ایک آیت کے
نزول سے اس کی تائید ہو جاتی ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی اور واقعات خود شاہد ہیں کہ باوجود
پیغمبر ہونے کے (جنہیں اللہ کی ساری تائید حاصل تھی) آپ نے حُرَی تدا بیر سے بھی کام لیا۔

رسول کریم کی سوانح عمری ایک حیثیت سے غزوات ہی کا نام ہے (بلکہ ان میں سے بعض کا
حوالہ قرآن کریم میں اس انداز سے آیا ہے کہ ان کا ذکر مومن کی تربیت و پختگی کے لیے انمول ذریعہ
ہے) اور اسی لیے پہلے سیرت کی کتابیں 'مغازی' (مغازی کے افعال) کے نام سے مشہور ہو گئیں۔
مگر آپ کی جنگیں تاریخ انسانی میں غیر معمولی طور پر ممتاز ہیں! اکثر و گنی، تگنی اور بعض وقت
دس گنی قوت کے مقابلہ میں سبھی آپ ہی کو قریب قریب ہمیشہ فتح حاصل ہوئی۔ دوران غزوات
سات آٹھ سال کی مدت میں اتنی کم جانیں ضائع ہوئیں کہ انسانی خون کی یہ غزت بھی تاریخ عالم میں

بے نظیر ہے! آخر یہ جنگیں کیوں اتنی ممتاز و بے نظیر ہیں؟ ان کی نوعیت کیا ہے؟ ان جنگوں میں کیا حربی تدابیر اختیار کی گئیں؟ کامیابی کا راز کیا تھا؟ دراصل ان ہی باتوں کو تفصیلات میں نمایاں کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔

رسول کریم نے مکہ سے توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا موجب تھا۔ اس وقت مکہ کی عزت کعبہ کی وجہ سے تھی اور قریش کا خاندان کعبہ کا مجاور اور منولی تھا۔ یہ بلا و الملک کے عام بت پرستانہ موروثی رسم و رواج کے خلاف تھا اور اس کے پھیلنے پھولنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ان کا سارا اقتدار مٹی میں مل جائے اور مذہبی قیادت اپنے آپ ختم ہو جائے۔

دوسری طرف عرب کی قومی زندگی میں جنگ و غارتگری سرایت کر گئی تھی۔ عرب ایک ویران ملک تھا۔ بھڑ بھڑ بکریوں کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا اور بعض کے پاس یہ بھی نہ تھا اس لیے حملہ اور غارتگری شروع ہوئی جو معاش کا تنہا ذریعہ قرار پایا۔ غارتگری کے بعد تجارت کا نمبر آتا ہے۔ لیکن تجارتی قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا محال تھا یا قباہل ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈالتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ حج کے ایام میں مذہباً خاموش ہو جاتے اس کے علاوہ شمارہ (بدلہ) کا قانون تھا کسی مقتول کا انتقام اس کے قبیلہ پر فرض ہو جاتا تھا۔ سیکڑوں سال تک لڑائیاں مسلسل قائم رہیں۔ اس کے علاوہ قریش میں بہت سی بد اخلاقیات پھیلی ہوئی تھیں اور اسلامی تحریک ان برائیوں پر کھل کر تنقید کرنے لگی تھی۔

کعبہ میں توحید کا اعلان ہوتے ہی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور آنحضرتؐ کے ایک غلط محافظ پر چاروں طرف سے آہنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے آنحضرتؐ محفوظ رہے۔ غفار کا قبیلہ اس راستہ پر آباد تھا جس سے ہو کر قریش ملک شام کو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی قبیلہ کے ایک شخص حضرت ابوذرؓ نے جب قبول اسلام کا اعلان کیا تو حرم میں چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تو خیر ہو گئی کہ عین وقت پر حضرت عباسؓ آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ غفار کے قبیلہ کے آدمی ہیں اور تمہارا تجارتی راستہ ان کے قبیلہ کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے

اگر انہوں نے تمہارا راستہ بند کر دیا تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا غرض کہ ابتلاء و آزمائش کا دور تھا، قریش کے مظالم ختم ہونے کی صورت نہ رہی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ مسلمان نیک دل انصاف پسند عیسائی بادشاہ حبشہ (نجاشی) کے پاس ہجرت مگر جائیں تاکہ کچھ دنوں تو نجات ملے مگر قریش نے وہاں بھی پیچھا کیا یہ اور بات ہے کہ دال نہ گل سکی!

جب شفیق بیوی حضرت خدیجہؓ اور حامی و محافظ چچا ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کی مخالفت میں اور بھی شدت ہو گئی۔ چچا ابولہب کو شروع ہی سے مخالفت تھی۔ اس لیے اب آنحضرتؐ کو تیسے محافظ ڈھونڈھنے پڑے۔ آپ کو خیال آیا کہ آپ کے ماموؤں کا خاندان طائف میں بتا ہے اور آپ کے چھوٹے چچا حضرت عباسؓ طائف میں تاجرانہ لین دین کے ذریعہ کافی رسوخ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ بڑی اُنگوں کے ساتھ وہاں پہنچے مگر چونکہ مکہ طائف کے مال کے لیے نکاسی کی منڈی تھا۔ اور ہر سال گرمیوں میں مکہ کے مالدار تاجر طائف آکر تبدیلی موسم کی خاطر وہاں کی آمدنی بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے تھے اس لیے طائف مکہ کو کیسے ناراض کرتا؟ لہذا دولت و اقتدار اور مکہ کے سیاسی و مذہبی وجوہ یہاں بھی دعوتِ توحید کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اور آپ کو پتھر کھا کر ہی مکہ واپس ہونا پڑا۔ مایوسی کی حالت میں شہر کے باہر ہی بعض شناساؤں کی مدد سے تبلیغی دورے کرتے رہے۔ خصوصاً حج کے زمانہ میں دعوت پہنچانا کوئی آسان کام نہ تھا!

منیٰ کے قریب (دیکھیے نقشہ نمبر ۲) راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی ایک سلسل دیوار ہے۔ مکہ سے تقریباً ۳ میل پر حدودِ منیٰ شروع ہونے سے ایک فرلانگ پہلے ہی بائیں ہاتھ پر ایک وسیع میدانی دائرہ بناتا ہوا پہاڑ پھرتنگ راستہ پر آجاتا ہے۔ یہ مقام عقیقہ کہلاتا ہے جہاں مشہور بیعتِ ہلکے عقبہ ہوئی تھیں۔ ایسی کھلی ہوئی مگر پہاڑوں سے محفوظ جگہیں اکثر پہاڑی سلسلوں میں بن جاتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک ایسا ہی محفوظ بڑا دائرہ عرفات کا میدان ہے۔ محفوظ جگہوں میں عام راستہ کی بھیڑ بھاڑ سے ہٹ کر تبلیغ کا کام اچھا ہو سکتا تھا۔ مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج جن میں نسلوں سے خونریزیاں

جب قریش کو اس کی اطلاع ہوئی تو سخت چیں بہ جیں ہوئے اور اُسے براہ راست اپنے خلاف جتنا ہند
 خیال کیا۔ چنانچہ ہجرت سے ۳ ماہ پہلے آنحضرتؐ نے اپنے ساتھیوں اور مکہ کے عام مسلمانوں کو مدینہ
 بھیج دیا۔ بعدہ جب قریش نے آپؐ کے قتل کا مصمم ارادہ منصوبہ کے ساتھ کر لیا تو کیا یہ اعلان جنگ
 کے مترادف نہ تھا

(مہذبویؒ کے میدان جنگ — ڈاکٹر حمید اللہ صاحب)

مکہ میں جو مصیبت تنہا تھی، مدینہ میں آکر گونا گوں بن گئی۔

ہجرت کے بعد کی مشکلات

مدینہ اب تک تو بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا لیکن

رسول کریمؐ جب اللہ کے دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپؐ کی قیامگاہ قریش
 کے غیض و غضب کا نشانہ بن گئی۔ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی اس لیے قریش نے مدینہ کی بربادی
 کا فیصلہ کر لیا حرم کی تولیت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا۔ اس طرح مکہ سے مدینہ
 تک جو قبائل پہلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے۔ اس بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام
 کے خلاف بھڑکایا کر یہ نیا گروہ اگر کامیاب ہو گیا تو تمہاری آزادی تو آزادی ہستی تک فنا ہو جائیگی
 دل میں ان کے یہ اندیشہ تھا کہ اگر اسلامی تحریک قائم رہی تو ایک طرف ان کے مذہب کو صدمہ
 پہنچے گا دوسری طرف سارے عرب میں ان کا اثر جاتا رہے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدت
 تک مہاجرین اور انصار رات کو سوتے تو ہتھیار باندھ کر یہاں تک کہ صبح ہو جاتی!

قریش نے عبد اللہ بن ابی منافق کو پیغام بھیج دیا تھا کہ "محمدؐ کو وہاں سے نکال دو
 ورنہ ہم خود مدینہ آکر تمہارا اور محمدؐ دونوں کا فیصلہ کر دیں گے۔" عبد اللہ بن ابی منافق
 خود بھی اندیشہ محسوس کر رہا تھا کہ تحریک کی کامیابی کا مطلب اپنے اثر و اقتدار کو کھو دینا ہے اس لیے
 اندر اندر وہ بھی مخالفت پر آمادہ تھا۔ مدینہ کے ارد گرد کے یہودیوں پر تو کسی طرح بھروسہ نہیں
 کیا جاسکتا تھا۔ غرض کہ جس طرح مدینہ کو بیرونی خطرات کا اندیشہ تھا ویسے ہی وہ اندرونی خطرات
 سے بھی دوچار تھا!

ایسے حالات میں ضروری تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی حفاظت کے لیے مناسب
 تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام حفاظت خود اختیاری کی تدبیر تھی۔
 نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی۔ اس بنا پر آنحضرتؐ کا ایک کام تو یہ تھا کہ

مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہو جائیں۔ دوم یہ کہ یمن سے شام کی تجارتی شاہراہ پر (دیکھیے نقشہ نمبر ب) اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ (ENEMICAL) اور مزاحمتانہ (BELLIGERENT) پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں (جیسا کہ حج کے موقع پر ایک دفعہ ابو جہل کی دھمکی پر سعد بن معاذ بن انصاری نے کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کو حج سے روکتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کی شامی تجارت کو روک دیں گے)۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے آنحضرتؐ نے دو اہم تدابیر اختیار کیں:

(۱) مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان (دیکھیے نقشہ نمبر ب) اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری (NEUTRALITY) کا معاہدہ کر لیں۔ سب سے پہلے بنی جہینہ سے جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقہ میں ایک اہم قبیلہ تھا معاہدہ نا طرفداری طے ہوا۔ پھر سلسلہ کے آخر میں بنی ضمرہ سے جن کا علاقہ یمن اور ذوالعشیرہ سے متصل تھا دفاعی معاونت (DEFENSIVE ALLIANCE) کی قرارداد ہوئی۔ پھر سلسلہ کے وسط میں بنی مدلیج بھی اس سمجھوتہ میں شامل ہو گئے کیونکہ وہ بنی ضمرہ کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔

(۲) قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر پیہم چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے۔ ان تاختوں کا اصل مقصد قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا۔ لہذا ان تمام مہموں میں نہ تو کینت و خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا۔ نہ ان میں حضورؐ نے کسی انصاری کو بھیجا۔ تمام دستے نالص میچ مہاجرین ہی سے مرتب فرماتے رہے (چند کی قیادت خود آنحضرتؐ نے کی) تاکہ دوسرے قبیلوں کے الجھنے سے آگ نہ پھیل جائے۔ یہ دو طریقے اس لیے اختیار کیے گئے کہ مدینہ کے قرب و جوار کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے!

اسلام کے زیر اثر علاقے سے گزرنے کے لیے قریش نے زور دکھانا شروع کیا اور ایک کشمکش کی صورت پیدا ہو گئی چنانچہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں جو لڑائیاں ہوئیں یا واقعات پیش آئے انہیں 'غزوات' اور 'سرایا' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوات کی اغراض

تھیں کہ (۱) دشمنوں نے دارالاسلام پر حملہ کیا اور اُن کا مقابلہ کیا گیا۔ یا (۲) یہ معلوم ہوا کہ دشمن مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے۔ اور پیش قدمی کی گئی۔ 'سرائیا' (سیر یہ کی جمع) کی پانچ اغراض تھیں۔

(۱) محکمہ تفتیش — دشمنوں کی نقل و حرکت کی خبر رسانی کی غرض سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ خبر رسانی اور جاسوسی کا انتظام وسیع پیمانہ پر کیا جائے۔ چنانچہ ابتداء ہی سے اس کے نظم پر توجہ کی غرض سے مسلح اور جمعیت کی صورت میں جاسوسوں کے دستے بھیجے جاتے تھے جو کبھی دس بارہ سے زائد افراد پر مشتمل نہ ہوتے تھے۔

(۲) مدافعت — دشمنوں کے حملہ کی خبر سن کر مدافعت کے لیے پیش قدمی کر کے فوجیں بھیج دی جاتیں۔ یہ مہتمم مدافعت ہی کی غرض سے ہوتی تھیں۔ مثلاً سرائیا فدک، دومہ، البند، یسوع وغیرہ۔

(۳) قریش کی تجارت کی روک ٹوک — کعبہ مسلمانوں کی خاص چیز تھی۔ حضرت ابراہیم نے اُسے تعمیر کیا تھا اور مسلمان دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ قریش نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ سے روک دیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اُن کا کاروان تجارت (جو مدینہ کے اطراف سے ہوتا ہوا شام کو جایا کرتا تھا) (دیکھیے نقشہ نمبر ب) کو روک کر مجبور کیا جائے کہ مسلمانوں کو کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔

آنحضرتؐ کی مہمات تو اسی غرض کے لیے تھیں۔ لیکن چونکہ قریش تجارت کے لیے بھی ہتھیار بند ہو کر نکلتے تھے اور کم از کم سو دو سو کی جمعیت ساتھ لے کر جاتے تھے اس لیے روک ٹوک میں کبھی کبھی مقابلہ درپیش ہو جاتا تھا۔ اور جب قریش شکست کھا کر بھاگ جاتے تو ہمالی تجارت بھی رواج کے مطابق بطور غنیمت ہاتھ آجاتا۔ قافلہ کو لوٹنا اصل مقصود نہ تھا۔ (یہی روک ٹوک تھی جن کی بنا پر قریش نے بالآخر حدیبیہ کی تسلیج کر لی)

(۴) امن و امان قائم کرنا — تمام قبیلے باہم لڑ رہے تھے یہاں تک کہ محترم مہینوں میں بھی بہانے نکال کر مہینوں کے نام بدل دیتے۔ تجارت بالکل غیر محفوظ تھی۔ عرب کی معاش کا بڑا ذریعہ ہزنی اور قتل و تاراج تھا۔ چونکہ اسلام ان چیزوں کو مٹاتا تھا اس لیے عرب

اسلام سے بڑھ کر کسی کو اپنا دشمن نہیں تصور کر سکتے تھے۔ چنانچہ بہت سی مہیں اسی غرض سے تھیں۔ مثلاً مدینہ کی چراگاہ پر حملہ وغیرہ کے وقت زیادہ تر جو قبیلے ڈاکر زنی اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے خیمہ نشین اور بادیہ گرد تھے ان کی روک ٹوک سخت دشوار تھی۔ ان کی تعزیر کے لیے جب فوجیں جاتیں تو یہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے یا اور کسی طرف چل دیتے اور قابو میں نہیں آتے تھے۔ اس لیے مجبوراً جو فوجیں بھیجی جاتیں غفلت کے اوقات میں بھیجی جاتیں کہ وہ بھاگ نہ پائیں۔ اسی طرح فوجوں پر اچانک حملہ کیا جاتا تھا۔ اگر رسول کریم ﷺ فتنوں کو اٹھتے ہی دہانے کی نہ کوشش کرتے اور دشمنوں کو متحد ہونے سے پہلے نہ منتشر کرتے تو پھر مدینہ میں ایک دن بھی ٹھہرنا محال ہو جاتا۔

(۵) اشاعتِ اسلام — چونکہ ملک میں امن و امان نہ تھا نیز دشمنوں نے سارے عرب میں آگ لگا رکھی تھی اس لیے جو سرایا دعوتِ اسلام کے لیے جاتے تھے ان کی زندگی ہمیشہ خطرہ میں رہتی بلکہ واقعتاً اکثر جماعت کی جماعت تبلیغی سلسلہ میں دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی اور اگر کوئی بچ کر نکل آیا تو اسی نے داستانِ غم کی خبر دی مثلاً بزمِ معونہ اور رجیع کے واقعات اسی بنا پر اکثر تبلیغی سرایا کے ساتھ حفاظت کی غرض سے کچھ فوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھی لیکن افسروں کو تاکید کر دی جاتی تھی کہ صرف اشاعتِ اسلام مقصود ہے۔ لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں۔

ابتداءً فتحِ مکہ کے بعد جب عام طور سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تو بتوں کی غفلت و جباری کا جہلانہ تصور مٹانے کے لیے ان کے مراکز یعنی بت خانوں کو ڈھانے کے لیے بھی جنہیں وہ اب تک اپنے ہاتھوں نہ مٹانا چاہتے تھے، سرایا بھیجے گئے۔

الغرض یہ وہ ناگزیر جنگیں تھیں جن میں رسول کریم ﷺ اور مسلمان اضطرابِ اسات آٹھ سال تک شر سے بچنے کی خاطر شریک ہوتے رہے مگر ان میں کوئی ایسی جنگ نہیں کہ جس کی ابتدا مسلمانوں کے ہونے کی ہو۔

جنگ، افعالِ انسانی کا بدترین منظر ہے خصوصاً زمانہ جاہلیہ میں عرب کی جنگیں اپنی مثال نہ رکھتی تھیں۔ لیکن ہر قسم کے وحشیانہ افعال جو عمل میں آ رہے تھے ان کے مقابلہ میں اسلام

عمرہ عمدہ اصلاحیں کیں اور ایک ایک کر کے ان کا استیصال کیا۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر (جس کا خطبہ آپؐ نے عرفات میں دیا تھا۔ دیکھیے نقشہ نمبر 1) دشمنوں کے قابو کا ابطال بھی کر دیا۔ بالآخر وہی 'جنگ' جو ہر طرح کے ظلم و ستم اور جہالت و وحشت کا مجموعہ تھی اسلام کی تعلیم نے اس کو اعلیٰ کلمۃ اللہ، قیام امن، رفع مناسد، نصرتِ مظلوم اور تسبیح و تہلیل کی صورت میں تبدیل کر دیا۔

کامیابی کا راز | آپؐ پیغمبر تھے۔ آپؐ کو تائیدِ خداوندی ضرور حاصل تھی۔ چنانچہ اکثر جنگوں میں نصرتِ الہی مختلف شکلوں میں نمودار بھی ہوئی۔ مثلاً کہیں پانی کا برس جانا جس سے فریقین پر مختلف اثرات طاری ہوئے۔ کہیں سرد ہوا کے تند جھونکوں کا اچانک پہنچ جانا جس سے دشمن کی فوج کو میدان چھوڑنا ہی پڑا، تاہم دورانِ جنگ آپؐ کے ایسے نمایاں کارنامے مشاہدے میں آتے ہیں جن سے بے شمار صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ دراصل یہی وہ اخلاقی صفات تھیں جن کے سامنے مخالفتوں کی قوت چور چور ہو جاتی تھی۔ مثلاً:

- آپؐ کو اور آپؐ کے تابعین کو اللہ پر انتہائی توکل تھا۔ عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برس رہ پکارتی تھیں رسولِ کریمؐ نہایت خضوع و خشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ ذکرِ الہی میں مصروف ہوتے (بدر۔ اُحد۔ خندق اور خیبر جیسے بڑے بڑے معرکوں میں آپؐ کی یہی کیفیت تھی)

- سبیل اللہ کا واضح نقشہ ذہن نشین ہو جانے کے بعد اس راہ کے راہیوں میں لامحدود قوت کا پیدا ہو جانا لازمی تھا۔ کیونکہ سوائے رضائے الہی کے اور کوئی مادی مفاد پیش نظر نہ ہوتا تھا۔

- عزم و استقلال، قناعت و صبر، ہمت، دلیری و بلند چھلگی، راست بازی و دیانتداری، قوت برداشت وغیرہ۔

- ایثار و انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اتنا تھا کہ تن من اور دھن کی بازی لگا دینے سے ذرا بھی دریغ نہ کرتے تھے۔

دشمن پر باوجود قابو پا جانے کے کسی جنگ میں تبدیلیِ مذہب پر نہ زور دیا نہ دباؤ والا

بڑے سے بڑے قصور پر بھی معافی دی اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یا اُن کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔

• ہمیشہ قلوب کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ مفتوحوں کی ذہنیت کی کا یا پلٹ کر دیتے اور ان کو مکمل طور پر اپنا لیتے —

جس طرح یہ ساری صفاتِ حسنہ کامیابی کے لیے اہم تھیں اسی طرح مختلف جنگوں میں آپ کی حربی تدابیر بھی معاون ہوئیں۔ جنگِ بدر میں آپ کی تیاری بالکل نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں کہ آئندہ سے پوری تیاری رہنی چاہیے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ (الأنفال: ۶۰)

اُن کے مقابلہ کے لیے جس قدر تمہارے امکان میں ہو قوت اور رباطِ الخیل مہیا رکھو۔ اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور اُن کے سوا اُن دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے مرعوب و خوفزدہ کرو گے۔ اس کام میں جو کچھ تم فی سبیل اللہ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اس آیت کا نزول ہی ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جنگی ضروریات کے لیے اخلاقی قوتوں کے علاوہ مستقل فوج بھی رکھنی چاہیے جو ہمیشہ کیل کانٹے سے لیس رہے۔ سپاہیانہ فتنوں کا سیکھنا اگر ایک مذہبی فریضہ نہ ہوتا تو رسولِ کریم نے مسلمانوں پر شروع ہی سے یہ واضح نہ کر دیا ہوتا کہ "اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلہ میں ۳ اشخاص کو بہشت میں داخل کرتا ہے۔ ایک تیر بنانے والے دوسرے اُسے خدا کی راہ میں لے جانے والے اور تیسرے اُسے فی سبیل اللہ چلانے والے کو" اسی طرح آپ نے جائز کھیلوں میں 'تیر اندازی' اور گھوڑے کی تادیب کو شمار کیا۔ مدینہ میں جب مسجدِ غمامہ کے عید گاہ سے گھوڑ دوڑ شروع ہوئی تو نبی کریم خود ہی شامی دروازے کے پار مسجدِ سبق پر تٹانچے جانچنے کھڑے ہوتے تھے مختلف عہد میں آلاتِ حرب تبدیل ہوتے گئے۔ اُس زمانہ کے حربی آلات میں تیر اندازی کو

بڑی اہمیت حاصل تھی۔ مسلمان جنگ کی نوعیت کو صرف لفظ 'قوتہ' سے بیان کیا ہے جو ہر زمانہ میں بہترین حربی اختراعات یرکیساں چسپاں و حاوی ہے! امام فخر الدین رازی نے 'قوتہ' کے مفہوم میں وہ تمام چیزیں شامل کی ہیں جو قوت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ مثلاً 'تمام آلات حرب خواہ وہ دفاعی صورتوں میں مستعمل ہوں یا حملوں کے اوقات میں۔' "مَا اسْتَطَعْتُمْ" کے لفظ نے 'قوتہ' کو مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف کر دیا یہاں تک کہ انہیں ہر اس وسیلہ جنگ کو اختیار کرنا چاہیے جو دشمنانِ حق سے مقابلہ کرنے میں کام آسکے۔ اور جسے حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے یہ فرض ساقط ہو۔ اگر کوئی قوم اپنی فوجی طاقت کو مضبوط رکھتی ہے تو اس سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ جو طاقتیں اس کی علانیہ دشمن ہوں وہ اس سے مرعوب و خوف زدہ رہتی ہیں۔ بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں پر اس کی ایسی دھاک تم جاتی ہے کہ اُس کے ساتھ دشمنی کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا۔ اور اس حفظ مآلِ تقدم کی تیاری میں جو روپیہ صرف ہوتا ہے اُسے یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ بلکہ درحقیقت وہ تمہیں اس صورت میں واپس ملتا ہے کہ تم پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم سے محفوظ رہنے کی حالت میں تمہیں پُر امن زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

جنگوں کی تفصیلات سے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ رسول کریم نے یہ امکانی قوت سے کام لیا، اور اگر کہیں (اُحد و حنین کے موقعوں پر) آپ کے سپاہیوں سے ذرا بھی لغزش اور کوتاہی ہوئی تو وہاں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ (رسول کریم کے بعد اس فریضہ پر حضرت عمر نے بہت زیادہ عمل قدم بڑھا کر فوجی صیغہ کو ایک دم منظم کر دیا۔ یہاں تک کہ بڑی و بھاری سرحدوں پر بھی چھاؤنیاں قائم کر دیں۔ چنانچہ نتائج سے فیضیاب بھی ہوئے۔ اسی طرح اگر موسیٰ بن نصیر نے ٹیونس میں جنگی جہاز سازی کا کارخانہ قائم کیا ہوتا تو سمندر کی بساط پار کر کے سسلی، اسپین اور فرانس تک کیسے روشنی پھیلتی ہی)

جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے 'عہد نبوی کے میدانِ جنگ' میں تذکرہ کیا ہے رسول کریم کی جنگوں کے مطالعہ سے پورا فائدہ اُسی وقت اٹھایا جاسکتا ہے جب اس بات کا نہایت احتیاط کے ساتھ پتہ چلا جائے کہ آپ نے جنگ کے اصولوں کو کس طرح برتنا اور ان سے

کیا نتائج برآمد کر سکا کیونکہ "انسان کی فطرت اور وہ قواعد جن پر جنگ مبنی ہوتی ہے بدلتے نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نہایت قدیم زمانہ کی معرکہ آرائیوں سے بھی قیمتی سبق سیکھے جاسکتے ہیں"
(دوار آفس کے تربیتی قوانین ۱۹۳۴ء)

HUMAN NATURE AND THE UNDERLYING PRINCIPLES
OF WAR DONOT CHANGE AND IT IS FOR THIS REASON
THAT VALUABLE LESSONS CAN BE LEARNED FROM EVEN
THE MOST ANCIENT CAMPAIGNS. "

(WAR OFFICE TRAINING REGULATIONS 1934)

اقدامات اور آلات جنگ پر سرسری نظر • اصول جنگ کے موافق اکثر عزومات
میں رسول کریم اپنا ارادہ پہلے سے نہ

بتاتے تھے کہ کہاں حملہ کرنا ہے؛ (ابن اسحاق کا بیان ہے کہ صرف تبوک کے معرکہ میں تفصیل
سے آگاہ کر دیا تھا)

• فوجی مہموں میں غیر سمت چل کر نامانوس راستوں سے گزرتے ہوئے دشمن کو اچانک جانید
• اونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں غلیجہ کرادینا تاکہ دشمن کو فوج کی حرکت کا نہ پتہ چل سکے۔
• فوج کی تعداد کی کمی اور اس کی بنا پر کمزوری کا علاج مختلف تدابیر سے کرنا۔ مثلاً کیپوں
میں رات کے وقت زیادہ تعداد میں چولہوں کو روشن کرنا یا رات میں پہاڑی سے اترتے
وقت شعلیں بڑی تعداد میں جلوادینا۔ خندق کھدوا کر قلعہ بند ہو جانا۔ میدان جنگ
میں کلیہی مقامات پر مورچہ بندی اور دشمن کی تیاری سے پہلے اس کا پچھا کرنا بلکہ سرحد
تک پہنچ کر خوب کر دینا۔

• حکمہ تشبیش کے ذریعہ دشمن کی نقل و حرکت معلوم کر کے اچانک حملہ کر دینا۔ مگر رات کو
حملہ نہ کرنا آپ کی امتیازی سنت رہی ہے۔

• اکثر حالات میں قدرت کی عطا کردہ جغرافیائی پوزیشن سے پورا فائدہ اٹھانا۔
اپنی اور صحابہؓ کی ثابت قدمی اور استقلال سے عام فوج کی بہ اس کو ویر کر کے ان کی

ہمت افزائی کرنا۔

• اونٹوں کی کمی پر کئی کئی کا سوار ہونا یا باری باری سے سوار ہونا۔ رَسَد کی کمی پر فاقہ کشی بھی اختیار کرنا۔

• نیرکمان، ڈھال تلوار، خود وزرہ، برچی و بھالا کے علاوہ قلعہ شکن آلات (مثلاً منجنیق، ضبور، دبابہ و عرادرہ وغیرہ) سے بھی کام لینا۔

• ضرورت کے مطابق کہیں انگلیوں کے پوروں پر کہیں گردن کے اوپر مارنے، کہیں گھوڑوں کے حملہ کو روکنے کے لیے بڑے پھل کی تیروں کے چلانے کا حکم دینا۔

• جنگوں میں اکثر اپنا شعار (WATCH WORD) مقرر کرنا تاکہ دوست دشمن کی شناخت ہو سکے۔

• بہادر، تجربہ کار اور قابل سپاہیوں اور صحابیوں (مثلاً حمزہؓ، سلمان فارسیؓ، جناب ابن المنذرؓ اور خالد بن ولیدؓ وغیرہ) کی موجودگی اور ان کے مفید اور پختہ مشوروں سے فائدہ اٹھانا۔

— یہ اور ان ہی جیسے دیگر اقدامات تھے جو ذیل کے مواقع پر رسول کریمؐ نے اختیار کیے تھے:

جنگوں کی تاریخی ترتیب

- (۱) آپؐ کی ہجرت (بطور تمہید و دیباچہ) جنگ _____ ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء
- (۲) جنگ بدر _____ ۱۲ اگست ۶۲۴ء
- (۳) بنو قینقاع کے ساتھ جنگ _____ شوال ۶۲۵ء
- (۴) غزوہ سویق _____ ذوالحجہ ۶۲۵ء
- (۵) جنگ احد _____ ستمبر ۶۲۵ء
- (۶) نبرہ خمرہ الاسد _____ اتوار ۲۲ شوال ۶۲۵ء
- (۷) بنو نضیر کے ساتھ جنگ _____ ربیع الاول ۶۲۵ء
- (۸) بدر الصغریٰ کی مہم _____ ذیقعدہ ۶۲۵ء



- (۹) غزوة مُرَيْسِعِ بْنِ مِصْلِقٍ _____ ۲ شعبان ۵ھ
- (۱۰) غزوة احزاب یا جنگِ خندق _____ شوال و ذیقعدة ۵ھ
- (۱۱) بنو قریظہ کے ساتھ جنگ _____ ذی قعدة و ذوالحجہ ۵ھ
- (۱۲) صلح حدیبیہ _____ ذی قعدة ۶ھ
- (۱۳) غزوة ذی قرد یا غزوة غابہ _____ ذوالحجہ ۶ھ
- (۱۴) جنگِ خیبر _____ محرم ۶ھ
- (۱۵) غزوة وادی القریٰ اور فدک _____ محرم یا صفر ۶ھ
- (۱۶) ادائے عمرہ _____ ۶ھ
- (۱۷) جنگِ موتہ _____ جمادی الاولیٰ ۶ھ
- (۱۸) فتح مکہ _____ ۱۰ رمضان ۶ھ
- (۱۹) جنگِ خیندہ اور طاس [شوال ۶ھ] اور محاصرہ طائف _____ شوال و ذی قعدة ۶ھ
- (۲۰) غزوة تبوک _____ رجب ۹ھ
- (۲۱) حج اکبر _____ ۹ھ
- (۲۲) حجۃ الوداع _____ ۱۰ھ

27801

رسول کریمؐ کی ہجرت

(دیباچہ جنگ)

(۱۲ ستمبر ۶۲۲ء)

ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول کریمؐ حضرت ابوبکرؓ کے گھر مشورہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ان سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ آنحضرتؐ کے قتل کی تدابیر ابوجہل نے اس طرح کی تھی کہ عرب کے ہر مشہور قبیلہ سے ایک جوان مرد منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر رات کی تاریکی میں محمدؐ کے گھر کو گھیر لیں۔ اور صبح نماز کے لیے جاتے وقت یہ سب ان پر تلوار سے حملہ کریں۔ اس طریق سے قتل میں تمام قبیلے شامل ہوں گے اور اس کا بدلہ نہ محمدؐ کا قبیلہ لے سکے گا نہ ان کو سچا ماننے والے کچھ شرف ادا ٹھاسکیں گے۔

جب یہ تہیہ ہو چکا تو اسی رات آنحضرتؐ کی ہدایت سے حضرت علیؓ آپؐ کے بستر پر آپؐ کی چادر اوڑھ کر سو رہے تاکہ دوسری صبح سب کی امانتیں جا کر واپس دیدیں، اور خدا کا رسولؐ خدا کی حفاظت میں سورہ یس پڑھتا ہوا باہر نکل گیا (۱۲ ستمبر ۶۲۲ء)۔ کسی نے جاتے نہ دیکھا۔ دشمن کے تعاقب کے خیال سے مدینہ کی مانوس راہ چھوڑ کر (جو شمال کی جانب تھی) (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) جنوب کی راہ اختیار کی۔ حالانکہ آپؐ کا مکان مکہ کے شمال محلہ میں تھا)

پہلے رسول کریمؐ حضرت ابوبکرؓ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے جلدی سے سفر کا ضروری سامان درست کیا۔ حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی حضرت اسماءؓ نے دو تین دن کا کھانا تیار کر

ماشتہ دان (غالباً تھیلا) کا منہ کمر کی پیٹی (نطاق) پھاڑ کر اسی سے باندھا۔ اور اسی شب کی تاریکی میں دونوں چل پڑے۔ مکہ کی نشیبی جانب محلہ مسفلہ سے جنوب کی طرف (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) دو تین میل کے فاصلہ پر جبل ثور ہے جس کی بلندی تقریباً ایک میل ہے (جس طرح بندر کے جبل اسفل سے بحر احمر دکھائی دیتا ہے ویسے ہی اس کی چوٹی پر سے دکھائی دیتا ہے) جس کی چڑھائی سخت تھی اور راستہ بالکل سنگین اور نکیلے پتھروں سے ناہموار تھا۔ جن کی ٹھوکروں سے رسول کریم کے پائے نازک زخمی ہو رہے تھے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ان دونوں نے یہ مسافت طے کی اور آخر کار ایک غارتک پہنچ گئے جس کی تقدیر جاگنی تھی! حضرت ابو بکرؓ نے غار کو صاف کیا اور تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے رُوزن بند کیے۔ پھر رسول کریمؐ بھی اندر تشریف لے گئے۔ اس غار میں دونوں تین روز تک رہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت اسماءؓ روٹی دے جاتیں۔ عامر بن فہیرہؓ (ابو بکرؓ کا غلام جس کے پاس ان کا ریوڑ تھا) کچھ رات گئے بکریاں لاتا۔ بقدر ضرورت یہ لوگ دودھ لے لیتے۔ اور وہ پھر ریوڑ سے اینیوالوں کے نقش قدم کو تمام راستے ٹاڈتا! حضرت ابو بکرؓ کا بیٹا عبداللہؓ شب کو غار میں ساتھ جاتا اور صبح اندھیرے منٹھ شہر چلا جاتا اور پتہ لگا کر قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں شام کو سناتا۔

ادھر قریش آنحضرتؐ کے پنج نکلنے پر سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ غصہ اور ندامت سے حضرت علیؓ کو مار پیٹ کر آخر کار چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کے گھر جا کر اسماءؓ سے پوچھا " تیرا باپ کدھر ہے؟ " وہ بولیں: " مجھے معلوم نہیں " ابو جہل نے ایسا طمانچہ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی اور اس جھنجھلاہٹ میں غریب مسلمانوں کو اور زیادہ ستانے لگے۔ اور آپؐ کی اور دیگر مہاجرین کی جائدادیں ضبط کر لیں۔ آنحضرتؐ کا ضبط شدہ مکان وہ تھا جو آپؐ کو بی بی خدیجہؓ سے وراثت میں ملا تھا۔ خون کے پیانے دشمن آپؐ کو ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپؐ کو تلاش نہ کیا گیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ ان میں سے چند لوگ عین اسی غار کے دبانے پر بھی پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکرؓ کچھ پریشان ہوئے لیکن آنحضرتؐ نے نہایت اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دی:

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبہ) گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ علامتیں (مکڑی کا جالا اور کیونز کا گونسلا وغیرہ) پیدا ہو گئی تھیں کہ کافروں کو گمان بھی نہ ہو سکا کہ اس غار میں کوئی داخل ہو گا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس چلے گئے۔

تب چوتھے دن (۱۶ ستمبر ۶۲۲ء کو) یہ لوگ غار سے نکلے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ہم ہمیں سے دو اونٹنیاں بول کی پتیاں کھلا کھلا کر قربہ اور تیار کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک رسول اللہؐ نے قیمتاً پسند فرمائی۔ اس پر آپؐ اور حضرت ابوبکرؓ سوار ہوئے۔ دوسری پر عامر بن فہیرہ کے ساتھ عبد اللہ بن اریقہ (ایک کافر جس پر اعتماد کر کے اسے رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا تھا) سوار ہوا۔ دشمن کا ڈر تھا اس لیے ان لوگوں نے مکہ سے مدینہ کو (جنوبی سمت سے) داخل ہونے والا راستہ اختیار کیا جو صرف وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا ہے۔ یہ راستہ لاولکے سیاہ پتھروں سے اٹھا ہوا ہے۔ اس لیے دشوار گزار بھی ہے اور اس زمانہ میں شاذ و نادر ہی اختیار کیا جاتا تھا۔ جبکہ کاروانی راستہ ذوالحلیفہ سے وادی العقیق ہوتا ہوا شمال کی جانب وادی فناۃ کے سنگم تک جا کر مدینہ جانے کے لیے پھر جنوب کی طرف مڑتا تھا اور نرم ریت پر مشتمل ہونے کے باعث اونٹوں کو بھی پسند تھا۔ لیکن یہ راستہ غیر مانوس تھا اس لیے ایک راہبر رکھنا پڑا جو آگے آگے بتاتا چلتا تھا۔

ادھر قریش نے مشتہر کر دیا تھا کہ جو شخص محمد یا ابوبکرؓ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خرنباہ (یعنی ۱۰۰ اونٹ) کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بن جشم انعام کی امید میں نکلا ہوا تھا۔ جب راہبر نے کچھ دور جا کر سمندر کے کنارے والے راستے کو اختیار کیا اور یہ لوگ بالغ کے موجودہ قلعہ اور ساحل بحر کے درمیانی میدان سے گزر رہے تھے (دیکھیے نقشہ نمبر ب) تب سراقہ نے ان لوگوں کا تعاقب کیا۔ مگر پہلے تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھانی پھر دوبارہ کوشش کی تو اللہ کے حکم سے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔

حسن اتفاق سے حضرت زبیرؓ شام سے تجارت کا سامان لے کر آرہے تھے انہوں نے آنحضرتؐ اور حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں چند کپڑے پیش کیے جو اس بے سرو سامانی میں

غیبت سمجھے گئے۔

ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔ اگرچہ عرب کے نقتول میں آج اس کا نشان نہیں ملتا۔ خزاز، نینتہ المرہ، لقف، مدیجہ، مرشج، حداند، اذاخر، الخ (یہ مقام آج بھی حجاج کے راستے میں آتا ہے۔ یہاں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تھی) ذاسلم، عثمانیہ، قاصم، عروج، جدوات، رکوبہ، عقیق، جحاشہ۔

کشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ مدینہ سے جنوب کی طرف تقریباً ۳۰ میل کے فاصلہ پر جو بالائی آبادی ہے اُسے عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ سب سے ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا جس کے سردار کلثوم بن الہدم تھے ان ہی کی مہمانی رسول کریم نے قبول کی (جمعات ۸ ربیع الاول ۱ھ۔ ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء) یہاں پہلے سے اکثر صحابہ پہنچ چکے تھے، اور حضرت علیؓ بھی۔ یہیں پہلی مسجد (مسجد قبا) کی بنیاد ڈالی۔ ۱۳ دن کے بعد (جموعہ کو) آپ شہر میں داخل ہوئے تو اسی روز سے یثرب کا نام 'مدینۃ النبی' (مختصر مدینہ) ہو گیا۔ راہ میں بنی سالم کے محلہ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ جمعہ کی نماز سوا آدمیوں کے ساتھ پڑھی اور خطبہ سنایا۔ یہی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی۔ جب شہر قریب آ گیا تو جہاں پر اب مسجد نبویؐ ہے اس سے متصل حضرت ایوب انصاریؓ کے گھر میں مہمان ہوئے اور سات مہینے تک یہیں قیام فرمایا، اور جب مسجد نبویؐ تیار ہو گئی تو منتقل ہو گئے۔

شہر میں داخلہ کے وقت تمام جاں نثاران بے چین و بے قرار تھے۔ انصار کی معصوم لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر اشعار گارہی تھیں۔

مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ	طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
وَدَاعِ كِ الْكَاثِمِيْنَ	كَا لِحَا نَدِيْمٍ بِرُكْلٍ اَيَّا
مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ	وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
وَعَا مَانِكُنَّ وَالْءَدْعَا مَانِكُنَّ	هَمَّ بِرُشْكُو اَجِبْ هَبْ جِبْتِكْ
جِئْتُ بِالْءَمْرِ الْمَطَاعِ	اَيُّهَا الْمُبْعُوْتُ فَيُنَا
تَوَالِيْسِيْ حِيْرًا لِيَا بِهِيْ جِسْمِيْ كِ اَطَاعَتِكِ كِ جَائِكِيْ	اے وہ جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے

(تاریخ ذہبی)

تَنْبِيَّاتٍ جمع ہے 'تَنْبِيَّة' کی 'تَنْبِيَّة' کہتے ہیں ٹیلہ کو سفر، ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے قبل تَنْبِيَّةُ الْبَوْلِ، تَنْبِيَّةُ الْجَابِ، تَنْبِيَّةُ مَرْدَانَ، اور تَنْبِيَّةُ الْعَيْزِ کو عبور فرمایا پھر تَنْبِيَّةُ الْوُدَاعِ بھی ملا۔ اس کے بعد قبا آتا ہے۔ یہ سب ٹیلے مدینہ کے قریب میں ہیں۔ اور اہل مدینہ دوستوں کو یہاں تک چھوڑنے (الوداع کہنے) آیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ٹیلہ تَنْبِيَّةُ الْوُدَاعِ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ سارے ٹیلے تَنْبِيَّاتُ الْوُدَاعِ کہے جاسکتے ہیں۔

معصوم لڑکیاں دُف بجا بجا کر گاتی تھیں:

نحن جوار من بنى النجار
 ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں
 یا حبذا محمداً من جارا
 محمدؐ کیا اچھا ہمسایہ ہے
 آپ نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا:
 "کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟"
 بولیں "ہاں"
 فرمایا کہ "میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔"

جنگ بدر

(۱۰) (۱۱) رمضان ۱۲۰ھ

۱۰

جنگ کے اسباب • ہجرت کے بعد ہی سے قریش مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ (جیسا کہ عبد اللہ بن ابی کے پاس خط بھیج کر آگاہ کر چکے تھے) مگر ان کے درمیان بنی کنانہ کا علاقہ پڑتا تھا جن سے قریش کی جانی عداوت کئی پشتوں سے چلی آرہی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ بنی کنانہ ان کو اپنے علاقہ سے فوج نہ لے جانے دیں گے (دیکھیے نقشہ نمبر ب) اور اگر فوج کو زیادہ مل بھی گئی تب بھی اندیشہ تھا کہ بنی کنانہ فوج کا سلسلہ عقب سے منقطع کر دیں اور ادھر خود مکہ پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائیں جبکہ وہاں میدان صاف ہے گا سراقہ (جس نے نبیؐ کا تعاقب سفر ہجرت میں کیا تھا) اس درمیانی علاقہ کا کنانی سردار تھا۔ یہ بات اُسے معلوم ہوئی تو خود مکہ گیا۔ تمام پھیلی عداوتوں کو چھوڑ کر قریش کے ساتھ معاہدہ اتحاد کر لیا۔ یہی تھا وہ معاہدہ شیطانی جس کے ذریعہ مسلمانوں پر قریش کے حملہ کر سکنے کا یہ شخص سبب قوی بنا!

• رجب ۱۲۰ھ میں آنحضرتؐ نے عبداللہ بن جحش بنہ کو ۱۲ آدمیوں کے ساتھ مقام نخلہ (مکہ اور طائف کے درمیان) — جیسا مدینہ سے نظر آتا ہے — دیکھیے نقشہ نمبر ب) میں قیام کر کے قریش کے منصوبوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ مگر اپنی طرف سے قریش کے چند آدمیوں پر جو شام سے تجارتی مال لے کر آ رہے تھے عبداللہ نے حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک شخص عمرو بن الحضرمی مارا گیا، ۲ گرقار ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس واقعہ کو سن کر آنحضرتؐ عبداللہ پر نہایت برہم ہوئے۔ — نخلہ مکہ سے قریب ہی تھا۔ چنانچہ

اس واقعے نے بہت جلد تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور سارا مکہ جو شہ انتقام سے لبریز ہو گیا غزوہ بدر کا سلسلہ اسی واقعے سے وابستہ ہے۔

• خود حریفان جنگ کی شہادت اس سبب کی تائید کرتی ہے (حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما)

غزوہ بدر میں شریک تھے اور اس وقت کافر تھے۔ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ مروان بن حکم کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے

انہوں نے کہا کہ جب ہماری فوجیں میدان میں اتریں تو میں عقبہ (جنگ بدر میں قریش کا سپہ سالار) کے پاس گیا اور میں نے اُس سے کہا: "یا ابا الولید هل لك ان قد هب بشرف اليوم ما بقیت قال افعل ماذا؟ قلت انکم لا تطلبون من محمد الا

دم ابن الحضرمی و هو حلیفک فتحمل دیتہ فترجع بالناس" (اے ابوولید! کیا تم چاہتے ہو کہ تمام عمر کے لیے ساری نیک نامی تم ہی کو ہاتھ آئے؟ عقبہ نے کہا یہ کیسے؟ میں نے

کہا تم (یعنی قریش) محمد سے ابن حضرمی کے خون کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے اور وہ تمہارا حلیف تھا۔ اس لیے تم اس کا خون بہا ادا کرو کہ سب لوگ واپس چلے جائیں) عقبہ نے یہ تجویز پسند کی

لیکن ابو جہل نہ مانا۔ اور عمرو حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ خون کا بدلہ ماننے کھڑے ہو کر قوم سے دہائی کرو۔ دہائی کے بعد آغاز جنگ کے وقت سب سے پہلے جو شخص میدان

جنگ میں نکلا وہ یہی عامر حضرمی تھا۔ حکیم بن حزام۔ عامر حضرمی اور عقبہ و ابو جہل اگر غزوہ بدر کو تضرعی کے خون کا انتقام سمجھتے تھے اور سمجھتے رہے تو پھر ان کے مقابلے میں اوروں

کا (جو سیکڑوں برس بعد پیدا ہوئے) یہ سمجھنا کہ بدر کی لڑائی کا سبب دوسرا تھا (قافلہ تجارت کا حملہ سے بچانا وغیرہ) کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

• اسی موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت ابوسفیان کی سرداری میں شام کو بھیجا گیا تھا اُس پر مکہ کی پوری آبادی نے اپنی اپنی پونجی لگا دی تھی اور تجارت ہی کے منافع پر جنگ کا

سارا دار و مدار تھا اس لیے قافلہ کی واپسی کا قریش بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے ابھی شام سے واپسی کے لیے یہ قافلہ روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ (رجب ۱۲ھ میں) حضرمی کے قتل کا

اتفاقہ واقعہ پیش آ گیا۔ حالانکہ شام کو جاتے وقت جب اس قافلہ کا گزر مدینہ کے اطراف

سے ہوا تو کوئی حملہ نہ ہوا تھا۔ مگر جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابوسفیان نے دیکھا کہ ساتھ میں پچاس ہزار اشرفی کا مال ہے اور محافظ صرف تیس چالیس۔ اس لیے سابق اندیشوں کی بنا پر اس نے اپنی قیاس آرائی پر شعبان سڑھ میں ضمضم ناقہ سوار کو مکہ دوڑایا کہ یہ خبر دے دو کہ مسلمان قافلہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے مدد کرو۔ اُدھر قریش تو پہلے سے بھرے بیٹھے تھے۔ جب یہ افواہ پہنچی تو اس نے بارود میں چمکاری کا کام کیا۔ شعلہ بھڑک اُٹھا۔ جو مطلب تجارتی مال و زر سے قافلہ پہنچنے پر نکلتا وہ اس بہانہ سے نکل آیا۔ قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آرہے ہیں۔ آنحضرتؐ نے مدافعت کا قصد کیا۔ آپؐ کے جاسوسوں نے اس بات کی بھی خبر دی ہوگی کہ شام سے ابوسفیان بھی تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ حضرفی کا قتل خود ہی پہلے سے آپؐ کے لیے پریشان کن مسئلہ بنا ہوا تھا؟

● سورۃ انفال کے نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو خوف و اضطراب اور پہلو تہی کس بنا پر تھی؛ اس سے پہلے بارہا قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لیے دست کی شکل میں تھوڑے تھوڑے آدمی بھیج دیے جاتے تھے لیکن کبھی ان کو ضرر نہیں پہنچا تھا۔ اس وفد اسی قافلہ کا اتنا ڈر ہے کہ تین سو چیدہ اور منتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سمے جاتے ہیں۔

وَاِنَّ فِرْيَقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لَطَرَّهُوْنَ ؕ لِيُجَادُوْا كُفْرًا
فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاٰنَمَا
يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُوْنَ ۗ وَاِذْ يَبْعَدُكُمُ اللّٰهُ
اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَتَيْنَاكُمْ
وَتَوَدُّوْنَ اَنْ غَيَّرُوْا ذَاتِ الشُّوْكَهٖ
تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا وہ اس
حق کے معاملہ میں سمجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف
صاف ظاہر ہو چکا تھا۔ اُن کا حال یہ تھا کہ وہ گویا اکھوٹ
دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور یاد کرو
وہ موصوب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں
میں سے ایک تمہیں مقابلہ میں مل جائے گا۔ تم چاہتے
تھے کہ مزور گروہ تمہیں مقابلہ میں ملے مگر اللہ کا
ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق نہ دلا

يُمَيِّقُ الْحَقَّ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝
 لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ذٰلِكَ كَيْدُ
 الْمُجْرِمُوْنَ ۝ (الانفال: ۵-۸)

اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق ہو کر رہے
 اور باطل باطل ہو کر رہ جائے چاہے یہ بات
 مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔

پھر اسی سورۃ میں کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لیے بدر میں آئے ان کی نسبت یہ ہے:
 وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا
 مِنْ دِيَارِهِمْ يَبْتَغُوْنَ رِيْاءَ النَّاسِ
 اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے
 مغرورانہ نمائش اور خدا کی راہ سے روکتے
 وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الانفال: ۱۳) ہوئے نکلے۔


اگر قریش صرف قافلہ تجارت کو بچانے کے لیے نکلتے تو خدا یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہارِ شان اور دکھانے
 کے لیے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے؛ لیکن درحقیقت وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے
 نکلے تھے جس سے مقصود اپنے زور اور قوت کا اعلان و نمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا۔
 اس لیے خدا نے اس کو غرور و نمائش اور صد عن سبیل اللہ کہا۔ ابوسفیان کا قافلہ بھی
 چلا آ رہا ہے۔ اس لیے لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسمار ہے تھے۔ ان کو یہی نقشہ نظر آ رہا تھا
 کہ اتنی کم تعداد اور بے سروسامانی کے ساتھ گویا وہ موت کے منہ میں بھیجے جا رہے ہیں!

رسول اللہ نے بھی عزم فرمایا کہ جو قوت بھی اس وقت میسر ہے اُسے لے کر
واقعات نکل پڑیں۔ آپ نے اس سے پہلے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے جس قدر
 سراپا بھیجے تھے ان میں کبھی کسی انصاری کو نہیں بھیجا تھا۔ اس موقع پر مشورہ کے لیے آپ نے ہاجرین
 کے ساتھ انصار کو بھی جمع کیا۔ اور ان کے سامنے پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ شمال کی طرف
 سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور جنوب کی طرف سے قریش کا لشکر دیکھیے نقشہ نمرب اور حج
 تقریروں کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ مقابلہ پر چلنا ہے۔ چونکہ شام سے مکر کو جانے کا کاروانی راستہ
 بدر کی گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے اور مدینہ کا راستہ بھی اسی جنگش کے قریب ملتا ہے۔
 (دیکھیے نقشہ نمرب) اس لیے جنوب مغرب کی سمت بدر کی طرف ۱۲ رمضان ۶۱۰ء کو آنحضرت
 اپنے جاں نثاروں کے ساتھ نکل پڑے۔

فوج کی تعداد کل ۳۱۳ تھی جن میں ۶۰ ہاجرین باقی انصار تھے (محمد احمد باشمیل کے

مطابق ۳۱۷ جن میں ہاجرین ۸۶ باقی انصار، گھوڑے صرف دو تین تھے۔ سامان جنگ باگل
 ناکافی تھا یہاں تک کہ صرف چھ ز رہیں تھیں۔ مدینہ سے بدر کا فاصلہ آج ۱۵۲ کلو میٹر (۸۰
 میل کے قریب) ہے محمد احمد با شہیل کے مطابق مدینہ سے بدر کی مسافت قافلہ والی راہ سے
 جس پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم چلے تھے۔ تقریباً ۱۶۰ میل تھی۔ سواری کے لیے اونٹوں کی تعداد صرف ۱۰ تھی
 جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اونٹ تین چار اشخاص کے لیے تھا جس پر باری باری سے سوار
 ہو سکتے تھے۔ چلتے وقت رسول کریم نے حکم دے دیا تھا کہ اونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں علیحدہ

نمبر ۱، نقشہ جنگ بدر (پیمانہ کے مطابق نہیں)



گردی جائیں کیونکہ اندیشہ تھا کہ فوج کی حرکت دشمنوں کو گھنٹیوں کی آواز سے معلوم ہو جائے گی۔
 دو (سانڈنی سوار) آگے روانہ کر دیے گئے کہ قریش کی قتل و حرکت کی خبر لائیں۔ عہد نبویؐ
 اور اس سے پہلے مکہ۔ مدینہ اور بدر کے راستوں کے منازل جدا گانہ تھے (موجودہ نقشوں میں
 یہ مقامات مشکل سے ملیں گے) منصرف، ذات اجڈال، معلآ اور ائیل (مدینہ سے بدر کی راہ
 کے منازل) سے گزرتے ہوئے ۱۶ رمضان ۳ھ کو بدر کے قریب پہنچے تو مخبروں نے خبر دی کہ
 ابوسفیان کا قافلہ اب جنکشن پر آنے ہی والا ہے۔ اور شکر قریش جنوبی وادی کے سرے پر پہنچ
 آیا ہے۔ بلکہ رسول کریمؐ نے خود مشرکین کے شکر کو العُدوة القُصوی سے بدر کی طرف اترتے
 ہوئے دیکھا (محمد احمد باشمیل) لہذا آنحضرتؐ شامی داخلہ کے پاس ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔
 (دیکھئے نقشہ نمبر ۱) تاکہ قافلہ قریش کے شکر سے نہ ملنے پائے۔ میدان بدر میں داخلے تین
 سمت سے تھے اور یہ تین وادیاں تھیں۔ ایک مدینہ کی طرف سے جس سے آنحضرتؐ داخل
 ہوئے دو وادیاں۔ ایک شام کی طرف سے اور دوسری مکہ کی جانب سے داخلہ والی وادی۔
 مدینہ و شام والی وادیوں کا فاصلہ تقریباً ایک میل تھا اس لیے رسول کریمؐ اپنے جان نثاروں
 کو لے کر شامی داخلہ کے قریب ٹھہر گئے۔ جبکہ مکہ والا داخلہ تقریباً چار میل دور تھا۔

اسی اثناء میں بدر کے چشمہ کے پاس مشرکین کے دو غلام پانی پیتے پائے گئے جنہیں نبویؐ
 شکر کے پاس لے جایا گیا۔ رسول کریمؐ نے غلاموں سے مکہ کے شکر کا مقام دریافت کیا تو دونوں
 نے بتایا کہ "وہ اس پہاڑی کے پیچھے ہیں جو عُدوة القُصوی کے پاس ہے"

پھر پوچھا: "قوم کتنی بڑی ہے؟" دونوں نے جواب دیا: "بہت ہی زیادہ" پھر
 دریافت کیا: "ان کا شمار کیا ہوگا؟" جواب دیا: "ہم نہیں جانتے" پھر رسول کریمؐ نے پوچھا
 "ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟" جواب دیا: "کسی دن ۹ کسی دن ۱۰" تو رسول کریمؐ
 نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ "قوم ۹ سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے!"

پھر غلاموں سے دریافت کیا کہ اشرافِ مکہ اور ان کے سربراہوں میں سے کون کون شکر
 میں آئے ہیں؟" جواب دیا کہ: "عتیب بن ربیعہ، شیبہ ان کے بھائی، ابو جہل بن ہشام، ابوالبحر
 بن ہشام، امیہ بن خلف، عباس بن عبد المطلب، سہیل بن عمرو، نبیہ و منبہ، الحجاج کے

بیٹے وغیرہ یہی اشرافِ مکہ آئے ہیں۔“

اس طرح رسول کریمؐ نے دشمن کی فوجی قوت اور اس کی ضخامت کا اندازہ کر لیا اور اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ”

هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ آتَيْتُ إِلَيْكُمْ
أَفَلَا ذَكِبْتُمْهَا“
یہ مکہ ہے جس نے تمہاری طرف اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈال دیا ہے۔“

ادھر شام سے آنے والے قافلہ کو بدر کے جنگش پر پہنچنے سے پیشتر ہی روک کر ابوسفیانؓ کو لے کر نکلتا ہے اور آنحضرتؐ کے سائڈنی سوار کے اونٹ کے نقش قدم پر چلا۔ تازہ مینگیا لے دیکھ لیں اور چونکا ہو کر قافلے کے پاس بھاگا۔ اور عام تجارتی شاہراہ کو چھوڑ کر بدر کی گھاٹی کے مغربی ڈھلوانی پہلو (جبل اسفل سے مغرب) کی طرف مڑ جاتا ہے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) جو بدر اور بحرا حمر کے درمیان ہے اور ساحل کے قریب سے جلدی جلدی بغیر آرام لیے قافلہ کو مسلمانوں کی دسترس سے بچا کر صبح سلامت مکہ پہنچ جاتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے قبل ہی لشکر قریش مکہ سے نکل چکا تھا۔ ان تینوں حرکت کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے:

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ بِالْعُدَّةِ الْقُصْوَى
وَالسَّرَكِبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ“
جنگ تم مسلمان قریب والی وادی کے پاس تھے
اور وہ لوگ یعنی قریش، دور والی وادی کے
پاس تھے اور تیسرا فریق یعنی ابوسفیان کا قافلہ
تم سے نیچے کی طرف تھا۔ (انفال: ۲۲)

اس طرح گویا مقابلہ رسول کریمؐ کی مختصر فوج اور قریش مکہ کے عظیم لشکر کے درمیان ہو گا۔ حالانکہ رسول کریمؐ مدینہ والے داخلہ کے پاس ابوسفیان کے قافلے سے پہلے پہنچ چکے تھے مگر وہ کتر کر نکل گیا۔ نہ رسول کریمؐ سے اس کا مقابلہ ہو سکا اور نہ وہ لشکر قریش کے ساتھ مل سکا۔ یہ ساری باتیں اپنے اپنے وقت سے واقع ہوئیں اگر یہ تینوں پارٹیاں پہلے سے ملے شدہ پروگرام بنا کر بھی نکلتیں تو شاید ہی ایسے ٹھیک وقت پر پہنچ سکتیں، قرآن کریم میں اس واقعہ پر اللہ کا تبصرہ ملاحظہ ہو:

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ
اور اگر کہیں پہلے سے تمہارے درمیان مقابلہ کی

فِي الْبُعَادِ وَ لَكِنْ يَقْنِي اللهُ أَمْرًا
 كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
 عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِي مَنْ سَخِيَ عَنْ
 بَيِّنَةٍ

قرار داد ہو چکی ہوتی تو ضرور وقت کی پابندی میں کسی نہ
 کسی فریق سے دیر سویر ہو جاتی۔ لیکن تم کو خدا نے اچانک
 ایک دوسرے سے بھڑا دیا تاکہ خدا کو جو کچھ کرنا منظور
 تھا اُسے پورا کر دکھائے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے روشن
 دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ
 روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔

(انفال: ۲۲)

مکہ سے قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کی سپہ سالاری میں
 تقریباً ایک ہزار کی جمعیت تھی (محمد احمد باشمیل کے مطابق ۱۳۰۰) جن میں روسائے قریش سب
 شریک تھے۔ ابولہب نہ آسکا تھا اُس نے اپنا قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رُسد کا معقول انتظام تھا
 فوج میں ستوا سواروں کا رسالہ تھا اور کئی سوا اونٹ تھے۔ جنگی سپاہیوں میں سے چھ سو زبردہ پوش
 تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ کو مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے بھی اسلحہ جنگ سے تعاون کیا
 تھا۔ لشکر قریش کے اسلحہ میں تیرو کمان، تلوار و ڈھال، برچھیاں و بھالے، گرز و خنجر، زہرہ و سپر
 سروں کا خود، چہروں کا جھلم اور ہاتھوں کا دستا نہ تھا۔ اعلان جنگ کے لیے نقارہ و طبل بھی تھا
 اس ڈیڑھ دو ماہ کی ساری تیاری (الاسدین خذجو من حیاءہم بطراً ذریاء الناس
 ویصدون عن سبیل اللہ) (الانفال) کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف قافلہ کو بچا لائیں بلکہ
 حضرمی کے خون کا بدلہ بھی مل جائے اور آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مدینہ
 سے مخالفت جو نئی نئی شروع ہوئی ہے اُسے کچل ڈالیں۔ اور اس نواح کے قبائل کو اس حد تک
 مرعوب کر دیں کہ آئندہ کے لیے تجارتی شاہراہ بالکل محفوظ ہو جائے۔

چنانچہ بدر کے قریب پہنچ کر قریش کو معلوم بھی ہو گیا (ابوسفیان نے مکہ پہنچ کر اطلاع
 بھیجی) کہ تجارتی قافلہ مع اپنے قیمتی سامان کے صحیح سلامت مسلمانوں کی زد سے نکل کر مکہ
 پہنچ گیا ہے۔ ابوجہل جیسے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ جانا ناممکن
 ہے! اور میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ آنحضرتؐ کے ہمراہی تجربہ کاروں نے بھی جو بدر کی
 جغرافیائی پوزیشن سے واقف تھے مشورہ دیا کہ جنوب سے آنے والے دشمن کے مقابلہ کے لیے

پڑاؤ کی جگہ کو بدنا ہوگا۔

میدان جنگ دیکھیے نقشہ نمبر ۱ | بدر کاؤن کا نام چشمہ بدر کے نام پر پڑ گیا۔ یہ چشمہ زمین دوز ہے جس کا بہاؤ بستی سے جبل عریش کے دامن سے

ہوتے ہوئے نخلستان کی طرف ہے۔ بدر کا میدان تقریباً ۵۰ میل لبا اور ۴ میل چوڑا ہے۔ اطراف میں بلند پہاڑ ہیں۔ مگر، شام اور مدینہ جانے والے راستے یہیں ملتے ہیں۔ یہ میدان سنگلاخ یا ریتلا ہے مگر جنوب مغربی حصہ کی زمین نرم ہے (بدر کو اب تک موڑ نہیں جا سکی ہے کیونکہ راستہ میں متعدد بلند گھاٹیاں ہیں اور بہت نرم ریت ملتی ہے) جنگ بدر سے پچھلی رات بارش ہو گئی تھی تو یہ مقام جہاں قریش کا پڑاؤ تھا دلہل بن گیا (اب وہیں سرسبز نخلستان ہے) اطراف کے پہاڑوں میں سے دو سفید ریت کے تودے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان سفید پہاڑوں میں سے ایک کو "العُدْوَةُ الدُّنْيَا" اور دوسرے کو "العُدْوَةُ الْقُصْوَى" کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں جو بہت اونچا پہاڑ ہے اسے اب "جبل اسفل" کہتے ہیں (اس کے پیچھے دس بارہ میل پر بحر احمر ہے) میدان کے بیچ میں بستی سے ملحق ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر ایک عریش (یعنی چھوٹی جھونپڑی) بنا لی گئی تھی (آج اس مقام پر ایک بادگاہ مسجد عریش کے نام سے موجود ہے) اس عریش سے آنحضرتؐ میدان جنگ کو دیکھ سکتے رہے ہوں گے (آج کل باغوں، کھجوروں کے اونچے درختوں کی وجہ سے معرکہ کارزار نہیں نظر آتا) اسی میدان میں زمانہ جاہلیت کا سالانہ ہفتہ بھر کا ایک بڑا میلہ بھی لگا کرتا تھا۔

غالباً آنحضرتؐ نے الْعُدْوَةُ الدُّنْيَا سے آگے بڑھ کر جبل عریش کے قرب حواری میں چشمہ کے کنارے دوسرا پڑاؤ ڈالا۔ دشمن کا پڑاؤ اسی چشمہ کی طرف الْعُدْوَةُ الْقُصْوَى کے پاس تھا۔

فوجی ترتیب | بہتر صف بندی کے بغیر عام حالتوں میں مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں جاری رہ سکتا۔ امام ترمذی کے مطابق اسلامی فوج کی تقسیم لگائی سے پہلے کی رات ہی کو عمل میں آچکی تھی۔ واقعہ اور طبری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج ۳ ستر ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ مہاجرین اوس اور خزرج — اور ہر ایک کا عینہ لکھی الگ تھا۔

لڑائی کے دن (۱۷ رمضان ۱۰۰۰ھ) سویرے ہی آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو اصول جنگ کے مطابق قطاروں میں تقسیم کیا اور جنگ سے پہلے صف بندی کا تنقیدی جائزہ لیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ کوئی سپاہی ذرا بھی آگے پیچھے نظر آتا تو آپ اسے فوراً درست کرتے۔ اس صف بندی کے بعد آپ نے فوج کے مختلف حصوں پر افسر مقرر کیے۔ واقفی کے مطابق مینہ پر حضرت ابو بکرؓ تھے۔ ساقہ (یعنی پیچھے) کے اہم دستہ پر قیس المازنی (انصاری) کو مامور کیا گیا تھا (طبری) صف بندی کے بعد آنحضرتؐ نے سپاہیوں کو چند اہم ہدایات دیں کہ مسلمان اس صف بندی کو نہ توڑیں۔ اور اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کریں جب تک آنحضرتؐ اجازت نہ دیں۔ دشمن دور ہو تو تیر پلا کر ضائع نہ کریں۔ زد پر آئے تو تیر چلائیں۔ اور بھی قریب آئے تو پتھروں سے مار لیں (پتھر اسلامی کیمپ کے پاس ٹیلہ اور پلٹیو پر کافی مقدار میں تھے) اس سے بھی نزدیک ہو جائے تو نیزوں سے روکیں اور سب سے آخر میں لمواریں کھینچیں۔ سپاہیوں کے پاس کوئی امتیازی وردی نہ تھی۔ اس لیے "یا منصور اُمیت" کا جملہ ان کا شعار (کوڑ) (WATCH WORD) مقرر کیا گیا تاکہ دوست دشمن کی تیز ہو سکے۔

محدثین اور مورخین کا بیان تو یہاں تک ہے کہ بدر میں قیام کے ساتھ ہی آنحضرتؐ نے اپنے ممتاز افسروں کے ساتھ پھر کر میدان جنگ کا معائنہ کیا اور جگہ جگہ بتانے لگے کہ دشمن کا فلاں افسر فلاں جگہ ہو سکتا ہے اور اس کے مرکز گزرنے کی فلاں جگہ ہے۔ سپہ سالار اعظم کا انتہائی خطرہ کے موقع پر یہ اطمینان اور یہ ایقان ماتحت افسروں اور ان کے ذریعہ پوری فوج میں جو خود اعتمادی اور جوش و ولولہ پیدا کر سکتا ہے ظاہر ہے، اور ساتھ ہی دشمن کی صلاحیتوں کا پیش اندازہ کتنا ضروری اور مفید معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی جنگ بدر کے موقع پر ایک اہم حربی ہدایت یہ آئی کہ "ذَآضِرِبُدِّ اِمْنَهُمْ كُلِّ بَعَانٍ" (انگلیوں کے جوڑوں پر مارو) ظاہر ہے کہ دشمن کو لڑائی کے لیے ناقابل کر دینے اور ساتھ ہی خونریزی کو حتی الامکان گھٹانے کی اس سے بہتر ہدایت کسی دست بدست لڑائی کے لیے نہیں دی جاسکتی۔

لڑائی اسی جگہ ہوئی جہاں اب قبرستان واقع ہے۔ رضا کار عورتیں بھی مقرر تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں۔ اپنی صف بندی مکمل کر کے انتظام کی طرف سے مطمئن ہو کر آنحضرتؐ

اسی ٹیلے پر چڑھ گئے جہاں آپ کے لیے عریش (جھونپڑی) تیار کی گئی تھی اور میدان جنگ صاف نظر آتا تھا (علیٰ بن ابی طالب مشرف علی المعركة) (جھونپڑی — غالباً دھوپ اور تیروں کی بوجھا سے بچاؤ کی خاطر) یہاں چند تیز رفتار سائڈ نیباں بھی متعین کی گئی تھیں (ابن ہشام) تاکہ فوج کو ہدایات بہم پہنچانے میں آسانی ہو یا مدینہ کی راہ پکڑنے میں بروقت سہولت ہو۔ طبری کے مطابق عریش پر ایک محافظ دستہ کا پہرہ بھی تھا۔ رسول کریم نے اس موقع پر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا فرمائی۔ ”اب تیری وہ مدد آجائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں نہ ہوگی“ اس معرکہ میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا جن کے اپنے بھائی بند سامنے صف آرا تھے اور تلوار کی زد میں آرہے تھے۔ انصار کا امتحان بھی کم سخت نہ تھا کیونکہ اب تو وہ کھل کر اسلام کی اعانت میں جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اپنی بستی مدینہ کے خلاف سارے عرب کو دشمن بنایا تھا۔ حالانکہ مدینہ کی آبادی چند ایک ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اس امتحان میں پختہ ایمان والے ہی ٹھہر سکتے تھے۔

دشمن کی تنظیم کا زیادہ پتہ نہیں ملتا۔ واقعہ کے مطابق ان کا میمنہ و میسرہ دو حصے تھے اور فوج میں ۳ جھنڈے تھے۔ انہوں نے پیش قدمی کر کے ایک خاص مقام پر توقف کیا (نقشہ نمبرج دیکھیے) پھر اپنے زمانہ کے جنگی لواحق کے مطابق بارزہ کیا (یعنی انکا ایک بہادر صفوں سے آگے بڑھا اور دعوت دی کہ مسلمانوں کا بھی ایک پہلوان آگے بڑھے اور دونوں تنہا لڑیں) قریش میں یہ کمزوریاں تھیں کہ اول تو ان میں باہم اتفاق نہ تھا۔ ان کی فوج میں کوئی ترتیب و صف بندی نہ تھی۔ وہ اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ اسلامی فوج کا تخمینہ غلط کر رہے تھے (یا غیبی امداد سے تعداد زیادہ دکھائی دے رہی تھی)۔

يَذُوقُهُمْ مِثْلِيهِمْ رَأَى الْعَيْنِ“ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے
 ر آل عمران: ۱۳ : دو گنا دیکھ رہے تھے۔

دوسری طرف پچھلی رات بارش ہو جانے کی وجہ سے بالائی حصہ میں جہاں مسلم کیمپ تھا پانی کے ذخیروں کے علاوہ (جن کو وضو و غسل کے لیے استعمال کر سکتے تھے) ریت جم گئی جس سے

بین سخت ہو جانے سے قدم جمنے اور نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ برخلاف اس کے نشیبی حصہ میں جہاں قریش کا کیمپ تھا کچھ چڑھ گیا اور پاؤں دھنسنے لگے۔ بارش ہو جانے سے بالائی حصہ والے رات کو اطمینان سے سوئے اور صبح کے وقت تازہ دم تھے۔ برخلاف اس کے نشیبی حصہ والے رات بھر بے اطمینانی کی وجہ سے سو بھی نہ سکے اور صبح تھکے ہوئے اور سست تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی شروع ہوتے ہی قریش کے پیرا کھڑے ہوئے۔ بالآخر ان کا ایک عام حملہ ہوا تب رسول کریم نے تیروں کی بارش کا حکم دیدیا ان تیروں نے سواروں کو گھوڑوں سے اتار پھینکا۔ کتنے گھوڑے مڑ کر بھاگے اور پیادہ فوجوں کی صفوں کو توڑ دیا۔ غرض کہ وہ ایسے بدحواس ہراساں اور منتشر و سراپید ہو کر بھاگے کہ اپنی ہی کندیں طوق گردن بنی ہوئی تھیں۔ بھاگنے والے بوجھل ہو کر اپنے جھلم خود، زرد ہیں اور دیگر ہتھیار پھینکتے جاتے تھے جنہیں مسلمان سپاہی اٹھاتے جاتے تھے اور باطل کی جمعیت کا شیرازہ بڑی طرح بکھر گیا!

مسلمانوں کو خدا نے کامیابی عطا فرمائی اور قریش ہار گئے حالانکہ مقابلہ ۳:۱ کا تھا!

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ
الْفِتْيَانِ فِئَةٌ نَّكَاتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْآخَرَى كَافِرَةٌ

ان دو مخالف گروہوں میں تمہارے سمجھنے کیلئے
نشانی ہے جو ایک دوسرے سے بھڑکے۔ ان میں
سے ایک تو وہ تھا جو خدا کی راہ میں لڑتا تھا

دآل عمران: ۱۳ اور دوسرا منکروں میں سے تھا۔

غالب جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف ۱۴ اشخاص نے شہادت پائی (۶ مہاجر اور ۸ انصار) دیکھیے نقشہ نبرج میں ان شہدائے بدر کی چوکھنڈی، قریش کے قریب ۷ آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے (ابن ہشام) مارے جانے والوں میں ان کے قبائل کے بڑے بڑے سردار اور اسلام کی مخالفت پر ابھارنے والے نامور تقریباً سب ختم ہو گئے۔ مثلاً شیبہ، عتبہ، ابو جہل، اُبیہ وغیرہ۔ ان کی موت نے قریش کی کمر توڑ دی۔ اور تحریک اسلامی کی جڑ مضبوط کر دی۔ قرب و جوار کے علاقوں پر مسلمانوں کی دھاک جم گئی اور مدینہ میں منافقین و یہود کو بھی کچھ ڈھیلہ کر دیا۔ ادھر مکہ میں شکست خوردہ مشرکین کی

پسی پر کھرام مچ گیا۔ ہر گھر ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے منادی
ادی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔

● اپنے شہداء کو سپردِ خاک کرنے کے ساتھ ہی دشمن کی لاشوں کو بھی رسولِ کریم نے پاس
ہی کے ایک پرانے وسیع کنویں (قلیب) میں دفن کرادیا۔ واپسی سے قبل آپؐ پہاڑی سے
اترتے ہوئے اُس گڑھے (قلیب) کے قریب تشریف لے گئے جس میں روسائے قریش دفن
کئے گئے تھے اور پھر اُن میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا:

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ
كَيْفَاتِي وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي
حَقًّا
حَقًّا

کیا تم نے اُس وعدے کو حق پایا جو خدا نے میرے
ذریعہ تم سے کیا تھا؟ تحقیق میں نے تو اُس وعدے
کو حق پایا ہے جو خدا نے مجھ سے کیا تھا۔

نیز فرمایا۔

يَا أَهْلَ الْقَلَيْبِ بئس عشيروا
كنتم لنبيكم كذبتموني
وصدقني الناس واخرجتموني
وآذان الناس وقاتلموني
وكصرتني الناس (طبری)

اے اہلِ قلیب تم اپنے نبی کے بہت بُرے رشتہ دار
بنے۔ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے میری
تصدیق کی۔ تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور
دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ
تقال کیا اور دوسروں نے میری نصرت کی

● فوراً دو تیز رفتار خوشخبری دینے والے مدینہ کے محلہ عالیہ اور سافلہ کی طرف روانہ کر دیے
تاکہ وہاں کے لوگ بھی لڑائی کے انجام سے واقف ہو جائیں۔ بدر کی جنگ میں جاتے وقت آنحضرتؐ
اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کو چیچک میں مبتلا چھوڑ کر چلے گئے تھے (ان کے شوہر حضرت عثمانؓ
بھی رہ گئے تھے) جس روز اور جہاں اُن کی نبھیز و تکفین ہو رہی تھی وہیں فتح کی خبر آئی

● قیدیوں کے ساتھ عام طور پر عمدہ سلوک کیا گیا۔ دو دو چار چادر کے صحابہ میں تقسیم کر دیئے
گئے۔ بہت سے لوگ فدیہ دے کر رہا ہو گئے۔ ایک ہتھیار فروش (نوفل بن حارث) سے ایک ہزار
نیزے ہانگے گئے جو غریب تھے اور کھنا پڑھنا جانتے تھے اس شرط پر رہا کر دیئے گئے کہ
دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھادیں۔ چند کو اس اقرار پر مفت بھی رہا کر دیا گیا کہ

غده مسلمانوں سے نہ لڑیں گے۔ اسی موقعہ پر غالباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طور سے کرو۔ یعنی زخمیوں کو قتل کرنے کی ممانعت کی گئی۔ اسی طرح عورتوں، بچوں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والوں پر ہتھیار چلانے کی سخت ممانعت کی گئی۔

اس جنگ نے یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں دراصل جینے کا حق کسے ہے۔ اس اعتبار سے یہ پہلا معرکہ بہت عظیم الشان معرکہ شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ انفال میں اس معرکہ پر تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے پیروں کی تربیت کس انداز پر ہوتی ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب 'عہد نبوی کے میدان جنگ سے بھی استفادہ کیا گیا'

بنو قینقاع کے ساتھ جنگ

شوال ۱۱ھ

جنگ کے اسباب | دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے یہودیوں سے شام و فلسطین کی نام نہاد حکومتیں چھین لیں تو مجبوراً یہ حدودِ شام سے ہٹے۔ دوسرے اطراف میں جانے کے علاوہ قلبِ حجاز میں بھی کچھ یہود آ پہنچے۔ مدینہ کے مشرق میں مسلسل یہودی محلے تھے جو جنوباً شمالاً قبا سے لے کر تقریباً اُحد تک چلے گئے تھے۔

(دیکھیے نقشہ نمبر ۱۰) ان کے ۳ قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ۔ عموماً یہ لوگ زمیندار، دولت مند تجارت پیشہ اور صنّاع تھے۔ انصار (اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ) ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھتے تھے اور خود احساسِ کمتری میں مبتلا تھے یہودیوں کو بھی زعم تھا کہ ہم علم و امارت میں ممتاز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا اقتصادی رعب بھی تھا۔ چونکہ یہودی ہی تنہا صاحبِ دولت تھے اس لیے نہایت بے رحمی سے سود کی بڑی شرحیں مقرر کرنے لگے اور قرضہ کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے، یہاں تک کہ مستورات کو رہن رکھواتے تھے! (مکن ہے اسی سلسلہ میں پسر رومہ مع متعلقہ زمین کے یہودیوں کے قبضہ میں رہا ہو جسے رسول کریم کے اشارہ پر حضرت عثمان نے خرید کر وقف کر دیا تھا اور اس کے میٹھے پانی سے پینے کے علاوہ بڑی آبپاشی ہوتی تھی اور آج تک ہو رہی ہے) حرص و طمع کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات معصوم بچوں کو دو چار روپے کے زیور کے لیے پتھر سے مار ڈالتے تھے۔ دولت کی بہتات سے زینا اور بدکاری عام تھی اور چونکہ زیادہ تر امرا و اس کے مرکب ہوتے تھے اس لیے

اُن کو سزا نہیں دے سکتے تھے۔

اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کو احساس ہوا کہ اب ان کا جابرانہ اور خود غرضانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ آنحضرتؐ نے اگرچہ اُن سے معاہدہ کیا تھا کہ اُن کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن ذمائم اخلاق پر وعظا و تنزیہ کی آپ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن کریم میں یہود کے عوام اور اُن کے اہل علم اور دیندار قسم کے لوگوں کے اخلاق و معاملات پر کھلی کھلی تنقیدیں نازل ہو رہی تھیں۔ جنہیں سن کر وہ چراغ پا ہو جاتے تھے۔ اور حقیقی خدا پرستی لوگوں پر عیاں ہو جاتی تھی۔ اسلام جس قدر مدینہ میں پھیلتا جاتا تھا اسی قدر یہودیوں کے مذہبی وقار کو دھکا لگتا جاتا تھا۔ انصار کی معاشی و معاشرتی حالت جیسے جیسے سدھرتی جاتی تھی وہ یہودیوں کے قرض کے شکنجوں سے آزاد ہوتے جاتے تھے۔ ان اسباب نے تمام یہودیوں میں اسلام کی طرف سے سخت ناراضی پھیلا دی تھی۔ اس مقصد کو یہود ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔

ان یہودیوں نے اپنے لیے مضبوط برج اور قلعے بنالیے تھے جو جنگی استحکامات کے علاوہ تجارتی گودام کا بھی فریضہ انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے پاس ہمیشہ اسلحہ، جنگ کے ذخیرے بھی مہیا رکھتے تھے۔ یہودیوں کے قلعوں کی طرف قرآن کریم نے اس طرح اشارہ کیا ہے:

ذَیْقَاتُ لُؤْلُؤٰنِکُمْ جَمِیْعًا اِلَّا فِیۡ
 قُرٰی مَحْصَنٰتِہٖۡ اَدْمِیۡنٌ وَّ رَاۤءَہُ
 جُدِیۡمٌ (الحشر: ۱۲)

وہ قلعہ بند آبادیاں یا دھس کی آڑ میں
 چھ بے غیر یوں مل کر تم سے مقابلہ نہیں
 کر سکتے۔

ان کی چند قلعوں کے برتے پر وہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں لائے تھے چنانچہ آنحضرتؐ کو متعدد بار ایمان اُن کی شرارت کی وجہ سے لڑنی پڑی۔ بنو قینقاع مدینہ میں اسلامی آبادی کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ آج کل اُن کی بستی کا نام وقتان بھی نہیں محض میدان ہے ممکن ہے قبا اور دیار بنی النضیر کے بیچ میں کہیں یا دیار بنی قریظہ اور دیار بنی عارتہ کے بیچ میں کہیں رہا ہو (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) یہ لوگ زرگری یا سوناری کا کام کرتے تھے (اور سوناروں کو بستی ہی سے واسطہ بھی پڑتا ہے)

یہاں تک کہ ان کے نام پر بازار بنی قینقاع، معروف ہو گیا تھا یہی وہ بازار تھا جہاں ہجرت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنے انصاری بھائی سعدؓ سے ایک چیز بھی نہ لینا پسند کیا تھا) بھیج دیے گئے۔ اور دن بھر کے غور و فکر کے بعد انہوں نے گھی اور پنیر سے تجارت شروع کی اور خاطر خواہ ترقی کی۔ جب مسلمان رسول کریمؐ کے ہمراہ بدر کی مہم پر روانہ ہو گئے تھے ان ہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلہ میں دودھ یا سبزی بیچنے گئی۔ چند یہودیوں نے اسے سبز بازار پر ہنہ کر دیا۔ عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک مسلمان (غالباً اس کے شوہر) نے بے تاب ہو کر فساد انگیز یہودی کو قتل کر دیا۔ اس پر سب یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو بھی مار ڈالا۔ اور بلوہ بھی کیا۔

رسول کریمؐ نے بدر سے واپس ہو کر (شوال ۲ھ) اس بلوہ کے متعلق دریافت کرنے کے لیے یہودیوں کو بلوایا کہ اس معاملہ کو رفع دفع کر دیا جائے۔ اور یہ کہا کہ "خدا سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے؟" اور جنگ بدر میں تو بنو قریظہ کے یہودی مشرکین مکہ کی کھلم کھلا اسلحہ جنگ سے اعانت بھی کر چکے تھے۔ لیکن بدر کی فتح نے یہود کے کان کھڑے کر دیے تھے اور وہ زیادہ اندیشہ ناک ہو گئے تھے! چنانچہ انہوں نے معاہدہ کاغذ واپس بھیج دیا اور چیلنج کے طور پر مزید کہا بھیجا کہ "بیچارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانیں؟ ہم قریش نہیں جو بدر میں نہ پھیر کر چلے گئے۔ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو کہ لڑائی اتنی کتنے ہیں!"

واقعات | اس طرح جب یہود کی طرف سے معاہدے کی پروا کیے بغیر لڑائی کا اعلان ہوا تو رسول کریمؐ نے لڑائی کی تیاری کی۔ یہود قلعہ بند ہو گئے۔ بنو قریظہ اور بنو النضیر نے قینقاع کی کوئی مدد نہ کی (اس لیے کہ قینقاع ہمیشہ ان دونوں کے خلاف رہے) رسول کریمؐ نے اسلامی محلوں میں حضرت ابوبابہؓ بن عبدالمنذر کو نائب چھوڑ کر بنو قینقاع کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ۱۵ روز کے محاصرے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قلعہ کافی پائدار تھا۔ جہاں رسد وغیرہ کا کافی انتظام رہا ہو گا جو ۱۵ دن تک محاصرہ کرنا پڑا) بالآخر یہود ہار گئے اور عہد شکنی پر جو سزا بھی رسول کریمؐ دیں، بھگتنے کے لیے تیار تھے۔ مگر ان کے حلیف

عبداللہ بن ابی (منافق) نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ ان کو اور کچھ نہ کہا جائے۔ صرف جلاوطن کر دیا جائے۔ چونکہ ان کی شرارت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی اس لیے یہی نزا مناسبت دکھائی دی اور سات سو (۷۰۰) یہودی جلاوطن ہو کر شام کی طرف چلے گئے۔

اس اخراج کی نگرانی کے لیے آنحضرتؐ نے ایک خاص افسر حضرت عبادة بن مسامت بھی مقرر فرمایا تھا (طبری) اور یہ کام آپؐ نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا!

غزوہ سویق

ذوالحجہ ۲ھ

کعب بن اشرف ایک بے باک شاعر تھا۔ اس کا باپ (اشرف) عرب کے قبیلہ 'طے' سے تھا اور ماں بنو النضیر کے ایک بہت بڑے ناجر یہودی کی لڑکی تھی۔ رفته رفته شاعری اور دوہنڈی کی وجہ سے تمام یہودیوں نے عرب کا رئیس بن گیا تھا۔ نہیال (بنو النضیر کے محلہ) سے ملحق ایک ٹیلہ پر اُس کا قصر (قلعہ) تھا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) اس کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ اُدھر بدر کی لڑائی میں سردارانِ قریش مارے جانے سے اسے نہایت صدمہ ہوا۔ بنو قریظہ نے محمدؐ کے خلاف جنگ بدر میں مکہ کی اسلحہ سے مدد کی تھی۔ شکست کے بعد تعزیت کے لیے کعب بن اشرف چالیس سواروں کے ساتھ مکہ گیا۔ کشتگانِ بدر کے پُر دردمرثیے (جن میں انتقام کی ترغیب تھی) لوگوں کو جمع کر کے نہایت دُرد سے پڑھتا اور روتا رلاتا تھا۔ اُس نے مکہ والوں کو غاڑ کجہ کے صحن میں لے جا کر (۳۶۰ بتوں کے روبرو) کعبہ کے پُر دے اُن کے ہاتھ میں دے کر قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹانہ دیں گے اُس وقت تک چین نہ لیں گے۔ مکہ میں یہ آتش فشاں پیدا کر کے اس بدبخت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا (فتح اباری و زرقانی)

بدر کے بعد ابوسفیان در رسول کریمؐ کا رضائی بھائی) قریش کا قائد بنا دیا یہ عمائدِ قریش میں سے تھا اور اس کے گھر میں قوم کا نشانِ جنگ یعنی جھنڈا رکھا رہتا تھا) اُس نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولانِ بدر کا انتقام نہ لے لوں گا اپنے بالوں میں نہ تیل ڈالوں گا نہ اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ ذوالحجہ ۲ھ میں دو سو مسلح شہر سواروں

کے ساتھ مکہ سے نکل کر غیر معروف راستوں پر چلتا ہوا مدینہ کے تریب پہنچا۔ غالباً ذوالحلیفہ پار کر کے جبل عیر کے دامن میں (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) اپنے سواروں کو ٹھہرایا۔ چونکہ یہودیوں سے مدد و موافقت کی امید تھی اس لیے خود رات کی تاریکی میں جبل عیر کے دامن سے دیار بنی النضیر کی طرف بڑھا۔ پہلے بنی النضیر کے رئیس اعظم حنی بن اخطب کے پاس گیا لیکن وہاں دروازہ سنہ کھلا تو مایوس ہو کر بنو النضیر کے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا۔ ان کے زیر اہتمام ان کا خزانہ (دو مال سرمایہ جسے وہ مصائب اور اتفاقی ضرورتوں کے لیے جمع رکھتے تھے) رہتا تھا۔ اُس نے بڑے جوش سے استقبال کیا۔ چنانچہ اسی کے حکان میں شب باش ہوا۔ اس طرح ابن مشکم نے آنحضرت سے معاہدہ امن کی خلاف ورزی تو کی ہی۔ ابوسفیان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کے علاوہ مسلمانوں کے حالات اور مدینہ کے پوشیدہ مواقع بھی بتا دیے، غالباً لوہوں کے شہرے سے یہ طے ہوا کہ مقابلہ کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس لیے ابوسفیان وہاں سے آخر شب میں رخصت ہوا اور جبل عیر کے دامن میں واپس ہو کر اپنے سواروں سمیت وادی العقیق سے گزرتا ہوا شمال کی طرف مضافات مدینہ میں مدینہ سے ۳ میل کی دوری پر، بئر زومہ کے قرب وجوار میں ایک چھوٹی سی بستی (عریض کی چراگاہ) پر صبح صبح حملہ آور ہوا۔ یہاں چند جھونپڑے تھے اور پھل دار نخلستان کی ایک خوشنما وادی تھی جہاں مسلمانانِ مدینہ کے اکثر اونٹ چرا کرتے تھے۔ اتفاق سے اُس وقت مویشی تو موجود نہ تھے۔ سرف دوکاشتکار (ایک انصاری سعد بن عمرو اور ان کے حلیف) وہاں موجود تھے۔ سواروں نے اول تو ان دو بے گناہوں کو قتل کر دیا پھر کھجور کے درختوں کو آگ لگادی اور گھاس کے انبار اور چند جھونپڑے جلا دیے۔ اس طرح گویا ابوسفیان نے اپنی قسم (مقتولانِ بدر کا انتقام) پوری کر لی! اور واپس ہڑا۔

آنحضرتؐ کو خبر ہوئی تو مدینہ میں پھر حضرت ابولبابہؓ بن عبدالمنذر کو نائب مقرر کیا اور دو سو مجاہدین کو لے کر آپؐ تعاقب میں نکلے۔ ابوسفیان کے پاس رمد کا سامان صرف 'سویق' (دستوں) تھا جسے گھبراہٹ میں پھینکنا گیا جس کی تھیلیوں کو مسلمان اٹھاتے گئے۔ اس 'سویق' کے نام پر یہ غزوہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ تعاقب میں رسولِ کریمؐ قرقرۃ الکرد تک تشریف لے گئے تھے۔ اس غزوہ کا نام غزوہ قرقرۃ الکرد ہے۔ ادھر ابوسفیان چلا گیا۔ ادھر آنحضرتؐ بوٹ آئے۔

جنگ اُحد

سینچرا شوال ۳۱ھ

جنگ کے اسباب

بدر کی جنگ میں قریش کے جو آدمی مارے گئے تھے ان میں اکثر وہ
 بیشتر افسر و سردار تھے خصوصاً وہ ہستیاں (۴۴) میں سے (۱)۔
 تھیں جنہوں نے ہجرت کی رات محمدؐ کو قتل کرنے کا پلان دارالندوة میں تیار کیا تھا اس بنا پر
 تمام مکہ جویش انتقام سے لبریز تھا۔ جنگ بدر نے عرب کی ان تمام طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو
 اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھیں یہود کے قبیلوں نے معاہدوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا۔
 ان کی ہمدردیاں ایک دم قریش و مشرکین کے ساتھ وابستہ ہو گئیں جیسا کہ قینقاع اور
 سولیق کے واقعات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، انہوں نے کھلم کھلا مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف
 جنگ کے لیے ابھارنا شروع کر دیا خصوصاً بنو النضیر کا سردار و شاعر کعب بن الاشرف اس
 معاملہ میں بڑا اہم پارٹ ادا کر رہا تھا۔ جیسا کہ غزوة سولیق کے حالات میں بیان ہو چکا ہے،
 قبائل کو ابھار کر جب مدینہ واپس آیا تو اس نے آنحضرتؐ کی ہجو میں اشعار کہنا اور لوگوں کو آپکے
 کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بدر سے پہلے بنو النضیر کے حلیف عبداللہ بن ابی کوکھا تھا
 اس میں ناکامی دیکھ کر قریش نے پھر بنو النضیر بلکہ عام یہود کو کچھ بھیجا کہ تم لوگوں کے پاس
 اسلحہ جنگ اور قلعے ہیں تم ہمارے حریف محمدؐ سے لڑو ورنہ ہم خود آ کر تمہارا استیصال کریں گے۔
 اس پیغام نے ان کو اور زیادہ آمادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایک بار کعب بن الاشرف نے آنحضرتؐ
 کو دعوت میں بلایا اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو دھوکہ سے آپ کو

ہلاک کر دیں۔ سازش کے ان حالات کے پیش نظر آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اپنی مرضی دیدی اور خزر جی محمد بن مسلمہ (کعب بن الاشرف کے رضاعی بھائی) نے کعب بن الاشرف کو بیچ لالہ سترہ میں قتل کر دیا۔

قریش کو معرکہ بدر سے مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اُس سے اب کچھ زیادہ ہی درکار ہے۔ لہذا اس مرتبہ انہوں نے عام چندہ کیا اور آٹا، فانا، ڈھائی لاکھ درہم فراہم ہو گیا (سیرۃ شامی) قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانہ میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے صحیح سلامت مکہ واپس پہنچ گیا تھا اُس کا اس المال (CAPITAL) توحصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا لیکن زرمنافع (PROFIT) ۵۰ ہزار مثقال سونا اور ایک ہزار اونٹ) امانت کے طور پر محفوظ تھا تقسیم نہ ہوا تھا۔ اس نفع کو انتقامی جنگ پر صرف کرنے کے لیے سرداران قریش نے اپنی رضامندی ابوسفیان کو دیدی۔ اس مرتبہ قریش کی ذاتی رضا کارانہ جمعیت کے ساتھ وہ جنگجو "احابیش" بھی شامل تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے [اُجْبُوْش کی جمع اُحَابِیْش یعنی قبیلے — چنانچہ کئی قبیلے مثلاً گمانہ قریش، خزیمہ، خزاعہ وغیرہ کے آدمی مکہ سے ۱۱ میل پر ایک پہاڑی 'جبل جیش' کے نیچے بیٹھے اور قسم کھاتی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ متفق رہیں گے کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں گے اور ضرورت پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو یا شام بلکہ جب تک 'جبل جیش' قائم رہے — یہ احابیش زمانہ جاہلیت میں قریش کے ساتھ اسلاف اور ناکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سوقِ عکاظ میں بھی ہر سال شرکت کرتے تھے — ایک طرح کے حلیف قبائل تھے] اس کے علاوہ قریش نے عمرو بن العاص، عبداللہ بن الزبیر، ہبیرہ بن ابی وہب، مسافع بن عبدمناف اور ابو عزیہ عمرو بن عبداللہ الجعفی کا وفد تمام قبائل عرب میں بھیجا ان لوگوں نے آتش بیانی سے دونوں میں آگ لگائی اور خطرے کی اہمیت نمایاں کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے مدعو کیا۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولادیں جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی وہ جوش انتقام سے لبریز تھیں۔ غرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں — ان اقدامات سے اتنی کامیابی ہوئی کہ سال بھر میں

۳ ہزار کی جمعیت تیار ہوگئی جس میں سات سو سپاہی زرہ پوش کے علاوہ دو سو مسلح رسالہ بھی تھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ (رسول کریم کے چچا) کو اسلام لاپکے تھے لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے یا قصداً ٹھہرائے گئے تھے۔ اس پوری تیاری کی اطلاع لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ انہوں نے رسول کریم کے پاس بھیجی اور قاصد کو تاکید کر دی کہ دن اور رات برابر چلتا ہے تاکہ مدینہ تین ہی روز میں (بجائے دو ہفتہ کے) پہنچ جائے۔ خبر پا کر رسول کریم نے پانچویں شوال ۸ھ کو دو خبر رساں (انس و مونس) مزید خبر لانے کے لیے مضافات میں بھیجے۔ قریشی لشکر کی سراغ رسانی کرتے ہوئے انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قسریہ بدھ ۸ شوال کو آگیا اور مدینہ کی ایک چراگاہ (عریض) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا (دیکھیے نقشہ ۷) اس پر آپ نے پھر تجربہ کار اور ماہر جنگ جات بن المنذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آکر صحیح معلومات بہم پہنچائیں۔

۳ ہزار کے لشکر جرار کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع پا کر مدینہ نے بھی اپنی مدافعت کی تیاری کی۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا آنحضرت نے فوراً ہر طرف کلیدی مقامات پر پہرے بٹھا کر جمعہ ۱۰ شوال کی صبح کو صحابہؓ سے مشورہ کیا۔

مضافات مدینہ میں میدانِ اُحد کی پوزیشن | مناسب ہوگا کہ مضافاتِ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن پر ایک سرسری

نظر ڈالی جائے تاکہ واقعات کے سمجھنے میں آسانی ہو اور میدانِ اُحد کی وجہ انتخاب بھی سمجھ میں آجائے۔ (دیکھیے نقشہ نمبر ۷)

اُحد ایک سرخ پہاڑ ہے جو مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً ۴ میل کی دوری پر شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ ٹور بھی ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو جبلِ اُحد سے بھی کچھ دور شمال میں واقع ہے۔ اور جبلِ غیر (یا جبلِ عائر) مدینہ کے جنوب میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ جبلِ اُحد کے دامن سے لے کر جبلِ غیر کے دامن تک کا فاصلہ تقریباً ۸ میل ہے۔

مام تاریخوں اور کتبِ حدیث میں مدینہ کی چوحدمی "ما بین ثور و غیر" (ثور اور غیر کے

درمیان) اور "مابین لائبین" (دونوں لائبہ کے درمیان) بیان کی گئی ہے۔ "لابتہ" ان سنگستانوں کو کہتے ہیں جہاں آتش فشاں پہاڑوں سے نکلا ہوا لاوا (LAVA) سیاہ پتھروں کی صورت میں پھیلا ہوا ہو۔ اور 'حرة' بغیر ریت والے اُس میدان کو کہتے ہیں جہاں کے پتھر لاوے سے جل کر سیاہ ہو گئے ہوں۔ ایسے سنگلاخ میدان شہر مدینہ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شمالاً جنوباً ملتے ہیں۔ ایک کو 'لابتہ شرقیہ' (حرة واقم) اور دوسرے کو 'لابتہ غربیہ' (حرة الوبرق) کہتے ہیں۔ ان دونوں لائبہ کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہوگا، جنوب میں بھی اسی طرح کا حرة ہے۔ اس طرح مدینہ النبی کے میدان کے اطراف اونچے ہیں اور زیادہ تر متصل پہاڑوں کے سلسلے ہیں جو بڑی دور تک چلے گئے ہیں۔ مدینہ کے جنوب میں بلند پہاڑیاں ہیں اور راستہ صرف وادیوں اور گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے۔ عہد نبوی میں مدینہ میں جنوب سے براہ راست داخل ہونے کے لیے تباکی طرف ایک سخت دشوار گزار راستہ تھا جو لاوا کے پتھروں (BOULDERS) سے اٹا ہونے کے باعث شاذ و نادر ہی اختیار کیا جاتا تھا۔ ایسے سنگلاخ و دریاں میدانوں سے گزرنا آدمی اور جانور دونوں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے اور دو پہر کو ان پتھروں کے گرم ہوجانے کے باعث وہاں پڑاؤ ڈالنا بھی ناپسندیدہ خیال کیا جاتا تھا۔ اور اگر بالفرض تکلیف گوارا کر کے کوئی فوج گزر بھی جائے تو ایسے سنگلاخ میدانوں میں لڑائی ہرگز آسان نہیں۔

چھ نمایاں وادیاں ہیں (دیکھیے نقشہ نمبر ۱)۔ وادی العقیق، وادی قنات، وادی بطحان، وادی مہزور، وادی مندینب اور وادی رانونا۔ یہ وادیاں ندیوں کے نام پر ہیں۔ قنات اور بطحان مل کر عقیق میں گرتی ہیں اور بقیہ تین وادیاں بطحان میں پہلے ہی مل جاتی ہیں۔ اور ان سب کا پانی لے کر عقیق ایک تحصیل میں گرتی ہے جو مدینہ کے شمالی مغرب میں واقع ہے۔ اس جھیل کے چاروں طرف غابہ ہے (نشیبی زمین ہے) جہاں گھاس و چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اور جھیل کے شمال مغرب میں صحرانہ کازرخیز علاقہ ہے جہاں کاشت ہوتی تھی وہاں عبدالرحمن بن عوف کی کاشت کے لیے ۲۰ اونٹوں سے آبپاشی ہوتی تھی، ان ندیوں کے بہاؤ کے رخ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طرف اونچی زمینیں ہیں، کہاں کہاں ڈھلوان ہے اور کس طرف نیچی زمین ہے؛ ندیاں پہاڑی ہیں اور پھر ریگستانی خطہ کی پہاڑی ندیوں کو

توسوار برسات کے تقریباً ہر موسم میں آدمی، اونٹ اور گھوڑے پار کر سکتے ہیں کیونکہ عموماً وہ خشک ہی رہتی ہیں اور اگر پانی کے ذخیرے کہیں کہیں ہوتے بھی ہیں تو ان میں بہت کم پانی ہوتا ہے مگر برسات میں ایسی ندیوں میں فوراً سیلاب بھی آجا یا کرتا ہے۔

عہد نبویؐ میں یہاں عرب اور یہودی قبیلے بستے تھے اور ہر قبیلہ کا محلہ یا گاؤں دوسرے سے الگ اور فرلانگ دو فرلانگ یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ پر واقع تھا۔ اس طرح کی بستیوں کا سلسلہ جبلِ عیر سے جبلِ ثور تک برابر پھیلا ہوا تھا۔ (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) ہر بستی میں ایک یا زائد پانی کے کنویں ہوتے۔ رہائشی مکان پتھر کے بنے ہوئے ٹھونڈے بنزلہ ہوتے۔ ہر بستی میں برج کی وضع کی مستحکم عمارتیں بھی ہوتیں جن کو اطام، راطم کی جمع بمعنی گڑھ یا قلعہ، اور آجام، راجم کی جمع کہا جاتا ہے۔ راجم = مربع سطح مکان اور راطم = جو قلعہ پتھروں کا بنایا گیا ہو اور مربع و سطح مکان کو بھی۔ (آئینہ عرب) جنگ کے زمانہ میں عورتیں، بچے، جانور اور دیگر اسباب کو ان میں منتقل کر دیا جاتا۔ ان میں سے بعض بہت بڑے ہوتے تھے۔ مثلاً راطم القحیان منزلہ تھا جس کی سب سے نچلی منزل لاوا کے سیاہ پتھروں سے تعمیر ہوئی تھی اور اوپر کے دو درجے چاندی کی طرح سفید پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ قبا کے بالمقابل (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) اس راطم کے کھنڈرات اور اس کی سب سے نچلی منزل اب تک باقی ہیں اور یشرب کے دورِ جاہلیت کی حربی تعمیر کے مطالعہ کا موقودیتے ہیں۔ جس طرح آج تاج محل کی سفید اونچی عمارت، فتح پور سیکری کے ٹیلہ سے دجو تاج محل سے بیس بچیس میل کے دوری پر ہے، دکھائی پڑتی ہے۔ اسی طرح بلند راطم القحیان اپنی سفید بالائی منزلوں کی بدولت اونٹ کے سفر کی ایک دن کی مسافت سے دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک عمدہ حفاظتی چوکی کا کام دیتا رہا ہوگا اور دشمن کی نقل و حرکت دور ہی سے دیکھ کر یشرب باخبر ہو جاتا رہا ہوگا۔ ذوالحلیفہ کے پاس سے وادی العقیق کے داخلہ پر تو اس کے ذریعہ اچھی پاسبانی ہوتی رہی ہوگی۔ ان اطام کے اندر اکثر پانی کے کنویں بھی ہوتے تھے تاکہ محاصرے کے دوران کام دیں۔

ان منتشر اور دور دور بے ہوئے محلوں کے علاوہ مختلف افراد اور قبائل کے باغ تھے جن کا احاطہ عموماً پتھر کی دیوار سے بنایا جاتا تھا۔ ان بلند اماطوں کی وجہ سے خود باغیچوں کو "حائط"

کہا جانے لگا۔ ایسے باغ اب تک مدینہ منورہ میں باقی ہیں یہ باغ آبادی کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں پختہ اور وسیع کنوئیں اب بھی اس قابل ہیں کہ ان میں درجنوں لوگ اتر کر چھپ سکیں اور ان پختہ دالانوں اور حجروں سے جو کنوؤں کے اندرونی حصے میں بنائے گئے ہیں گڑھیوں بلکہ چھوٹے قلعوں کا کام لے سکیں۔ مختلف محلوں کے یہ باغ اور گھر باہم کچھ اس طرح متصل ہو گئے تھے کہ متعدد جگہ صرف دو اونٹ گزرنے کے قابل چوڑی گلیوں کے سوا کوئی اور گزراہ بھی نہیں تھی! یہ حالت خاص کر قبا کے جنوب مغربی رخ پر اب تک نظر آتی ہے! شاید یہی وجہ ہے کہ غزوہ سُوَیْق کے موقع پر بھی جب ابوسفیان محض دو سو شتر سواروں کو لے کر مکہ سے شمال کی جانب چلا (دیکھیے نقشہ 'ب') اور مدینہ کی جنوبی سرحد ذوالخلیفہ اور جبل عیر کے مابین پہنچا تو سواروں کو ٹھہرا کر خود اکیلا دیارِ نبی انصیر کی طرف اندھیری رات میں گیا۔ پھر صبح کو بھی جغرافیائی مجبوریوں نے اجازت نہ دی کہ وادی رانونا سے (دیکھیے نقشہ نمبر 'د') دو سو مسلح شتر سواروں کو نکال لے جاتا اور مدینہ پر حملہ کر دیتا۔ بلکہ اُسے وادی العقیق کی شمالی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اس صورت حال میں ۳ ہزار کی جمعیت بھلا کیسے وادی رانونا کی راہ مدینہ میں جنوب کی طرف سے داخل ہو سکتی؟ علاوہ بریں مسکن نبویؐ تک پہنچنے کے لیے قبا اور عوالی کی آبادیاں اور گنجان باغ مائل تھے جن کے باعث لڑائی کا کوئی کھلا میدان بھی نہ تھا۔

باب العنبر یہ سے مغربی حجرہ کو کاٹ کر جو موجودہ راستہ بنایا گیا ہے یہ سترھویں صدی عیسوی کا ہے۔ (ڈاکٹر حمید اللہ صاحب — عہد نبویؐ کے میدان جنگ) عہد نبویؐ میں کاروانی راستہ وہی وادی العقیق کے اندر سیدھے شمال میں وادیوں کے سنگم تک تھا (دیکھیے نقشہ نمبر 'د') وہاں سے بحرف مدینہ میں داخل ہونے کے لیے پھر جنوب مشرق کی طرف مڑنا پڑتا تھا۔ وادیوں کے ایسے راستے نرم ریت پر مشتمل ہونے کے باعث اونٹوں کو بھی پسند تھے۔ باغوں یا محلوں کا سلسلہ جنوب مغرب اور مغرب میں بھی پھیلا ہوا تھا مگر نسبتاً کم گنجان تھے۔ شمال مغرب میں وادی العقیق کے کنارے بزرگ و مہر تک بہ کثرت باغ تھے۔ شمالی حصہ کی زمین چوناملی ہوئی ٹٹی کی وجہ سے (جس کا کچھ حصہ غالباً یہی پہاڑی ندیاں پہنچاتی ہوں گی) بجز رہی ہے۔ اس لیے وہاں نہ پہلے ہی زراعت ہو سکتی تھی اور نہ آج ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا شمال مغربی ہی گوشہ ایسا

تھا جو کھلا ہوا تھا، اور مدینۃ النبیؐ کا کشادہ اور فراخ راستہ ادھر ہی سے پایا جاسکتا تھا۔
 غرض یہ تھیں جغرافیائی دشواریاں جن کی بنا پر قریش کی ۳ ہزار کے تعداد میں تھکی ہوئی فوج اور
 بارہ دن کے کوچ سے نیم مُردہ جانوروں نے بھی مذکورہ بالا سنگم ہی کے پاس جا کر ٹھہرنا پسند
 کیا۔ خیموں کے نصب کرنے کے لیے بھی وسعت تھی۔ اور اتنے بڑے لشکر کے لیے وہاں شاداب
 وادیوں اور جھیل میں پانی اور چارہ کی افراط تھی۔ دوسری بات یہ کہ غزوہٴ سویق کے
 تجربے سے یہاں پڑاؤ کی سہولتوں کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ آرام کر کے قریشی لشکر نے پہلے سے
 جبلِ اُحد کے مغربی گوشہ پر وادی قنات اور پہاڑی کے درمیانی خطہ پر (جو کم از کم ایک میل لمبا
 اور دو سو گز چوڑا ہوگا) کیمپ ڈال دیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱)۔

جمعہ ۱۰ شوال کی صبح مدینہ میں مشورہ ہوا تو مہاجرین نے عموماً اور انصار
فوجی حرکت میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر
 میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی (جو اب تک شریک مشورہ نہیں کیا
 گیا تھا) یہی رائے دی۔ (کیونکہ دستور قدیمی یہی تھا کہ جب کوئی لشکر بثریب پر حملہ کرتا تھا
 تو سب شہر والے متحد ہو کر اپنی عورتوں کو قلعوں میں بٹھا کر فصیلوں پر مسلح ہو کر چڑھ جاتے تھے۔
 اور پتھر کے انبار بھی فراہم کر لیتے تھے۔ فصیلوں کی بلندی سے جب پتھر اور تیروں کی بارش ہوتی
 تو تلوار والے کچھ نہ کر پاتے) لیکن اُن نوخیز صحابہؓ نے جو جنگِ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس
 بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ بالآخر آنحضرتؐ نے یہی فیصلہ
 منظور فرمایا اور جمعہ کی نماز پڑھ کر نکل پڑے اور اطام الشیحین کے پاس رضا کاروں کو
 بھرتی ہونے کا حکم دیا۔ (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) (غالباً شیخین ابوبکرؓ اور عمرؓ کے نام پر)
 لیکن شاہنامہٴ اسلام میں حقیقتاً جاندھری نے بغیر حوالہ یہ نوٹ دیا ہے کہ "روایت ہے کہ زمانہٴ
 جاہلیت میں یہاں ایک اندھا بوڑھا (الشیخ) اور ایک اندھی بوڑھی (الشیخۃ) رہا کرتے تھے
 اور آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا نام "شیخین" مشہور ہو گیا)

جوفِ مدینہ کا میدان پوزلا ماہوار ہے بلکہ بیچ میں سلع کا پہاڑ اور متعدد دیگر چھوٹی چھوٹی
 ٹیکریاں ہیں۔ لہذا موزوں میدانِ جنگ کی تلاش میں باہر نکلنا تھا۔ مسجدِ نبویؐ سے مشرق کی طرف رسولِ کریمؐ

کے وقت سے اب تک ایک ہی قبرستان (جنت البقیع) چلا آ رہا ہے۔ اسی کے بغل سے نکلنا مناسب بھی تھا کیونکہ سامنے حرہ واقم کے ڈھلوان اور نخلستان کے درمیان سے جبل احد کی طرف جانے کا بالائی راستہ عمدہ اور دشمن کی زد سے کوسوں دور تھا (دیکھیے نقشہ 'د') (چونکہ اس اہم معرکہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل سے جمعہ کے دن باہر نکلے تھے۔ غالباً اسی لیے اس دروازہ کا نام بعد میں 'باب الجمعة' رکھ دیا گیا) آبادی کے باہر میل ڈیڑھ میل دور آطام الشیخین کے پاس ٹھہر کر بھرتی شدہ رضا کاروں کا تنقیدی معائنہ فرمایا اور کم عمر والے بچے واپس کر دیے گئے (بھرتی کے سلسلہ میں ہر قسم کی جانچ پڑتال بھی کی گئی ہوگی مثلاً کشتی پر ایک لڑکے کو لے لیا گیا جو دوسرے کا ساتھی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرفات کے میدان میں عکاظ کے بازار میں حضرت عمرؓ اور ان کے سمعصر پہلوانی اور کشتی کافن دکھا چکے تھے! اسی طرح تیر اندازی کی بھی جانچ کی گئی ہوگی۔ تہمت کی خاطر اس قسم کی ورزشیں برابر جاری رہی ہوں گی) البتہ کچھ عورتیں ساتھ رکھی گئیں تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور سپاہیوں کو پانی پلانے وغیرہ کا کام انجام دیں۔ رات بھر اسی جگہ قیام رہا۔ حضرت بلالؓ نے مغرب کی اذان پکارتی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر عشاء کی اذان اور نماز بھی ادا کی گئی۔ شیخوں کے اندیشہ سے رات بھر محمد بن مسلمہؓ کو (جو کعب بن الاشرف کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے) مامور کیا گیا اور وہ حفاظت کی خاطر ۵ سپاہیوں کے ہمراہ اسلامی پڑاؤ کے اطراف گشت کرتے رہے۔ ان آطام کے مشرق میں بنی عبد الاشمل کا محلہ تھا وہاں والے بھی جنگ کے میدان کے لیے گئے تھے۔ غالباً ان آطام میں بھی کچھ عورتوں، بچوں اور معذوروں کو رکھ دیا گیا ہوگا۔

سینچرا ارشوال کو علی الصبح تقریباً ڈھائی تین میل چل کر سب محلوں سے بھرتی شدہ رضا کاروں سمیت ایک ہزار کی فوج کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی طرف بڑھے تو پہلے جبل عینین سامنے آیا (دیکھیے نقشہ نمبر 'د') اور اب میدان جنگ آیا ہی چاہتا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق اپنی ۳ سو کی جمعیت کے ساتھ (اس مقام سے جس کا نام 'شوط' ہے) یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمدؐ میری رائے نہ مانی (گویا منزل و غایت کے قریب پہنچ کر لوٹ گیا) اس حرکت سے مسلمانوں کے دو قبیلے بنی سلہ اور بنی حارثہ کی بھی ہمتیں ٹوٹنے لگیں مگر تسلی دینے سے ان کی ہمت بندھ گئی!

دستی حارثہ کا محلہ جبل عینین ہی کے قریب تھا اس لیے اور ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ہوگی) اس وقت رسول کریم نے اس طرح تسلی دی تھی:

أَلَنْ يُكْفِيَكُمْ أَنْ تُبَدِّدُوا رُؤُوسَكُمْ
بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنزَلِينَ ۝ (آل عمران: ۱۲۴) مدد کرے؟

باقی ماندہ سات سو سپاہی تھے اور دشمن سامنے تھا۔ فجر کی نماز سے سلاح پہنے پہنے ادا کر کے آگے بڑھے۔

بلند جبل اُحُد کے شرقاً غرباً ۳ میل کے پھیلاؤ کے وسط میں بالکل اسی طرح جیسے ملک کے قریب دو دیکھیے نقشہ نمبر ۱) پہاڑی سلسلہ میں عقبہ منیٰ اور عرفات کے نیم دائرے نما میدان ہیں ایک نیم دائرہ کی شکل کا کافی وسیع میدان تقریباً نصف میل بلحاظ نصف میل چھوٹا زمین گیا ہے اور اس بڑے میدان کی پشت میں اندر کی طرف ایک اور محفوظ میدان ہے جہاں مختصراً اسلامی لشکر کیمپ کر سکا۔ کیمپ کے اس محفوظ مقام پر ساری فوج جبل عینین کے مشرق سے وادی قناتہ کو پار کرتی ہوئی اُس وقت کے نخلستان اور پہاڑی ڈامن کے کنارے کنارے باسانی پہنچ گئی۔ وادی قناتہ اور اُحُد پہاڑ کے درمیانی وسیع میدان کے مشرقی کنارے پر دو وادی پانی کے دو چشمے (عینان) بھی موجود تھے اور آج تک جاری ہیں (جبکہ وادی قناتہ اکثر اوقات خشک ہی رہتی ہے) اُحُد کے تقوُّدوق ۳ میل کے لائقنا ہی سلسلہ کے علاوہ ایک چھوٹی پہاڑی بھی ہے جسے غالباً ان چشموں کی موجودگی کے باعث "جبل عینین" (دو چشموں والا پہاڑ) کہا جاتا تھا!

جبل عینین کی ملٹری اہمیت | میدان جنگ کے معائنہ میں آنحضرتؐ کو "جبل عینین" کا قدرتی جغرافیائی مقام نہایت اہم اور کلیدی نظر آیا۔

حُزْرَةُ واقم کے شمال مغربی ڈھلوان اور جبل اُحُد کے جنوب مشرقی ڈھلوان اور نخلستانوں کے درمیان اُس وقت ایک تنگ وادی قناتہ تھی جس راہ سے اس ہونے والے جنگ میں مشرق سے اچانک حملہ کا خطرہ ہو سکتا تھا اس طرف سے اطمینان حاصل کرنا ضروری تھا؛ قدرشما اس داخلہ کے منہ پر جبل عینین واقع ہے۔ لہذا اس عریاں غیر محفوظ اور اہم مورچہ کی حفاظت کی طرف توجہ

ہوئے۔ آنحضرتؐ کو جناب بن المنذر نے دشمن کے صحیح تخمینہ کے ساتھ ساتھ رسالہ کی طاقت کا اندازہ بھی بتا دیا ہوگا۔ چنانچہ آپؐ نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت پچاس تیر انداز عینین کی پہاڑی پر متعین کر کے ہدایات اس انداز میں دیں: اے اللہ کے بندو! یہ گھائی ٹہنت ہی سخت ہے لہذا پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ۔ مجھے دشمن کے اُن سواروں سے اندیشہ ہے جو غفلت دیکھ کر اس طرف سے مسلمانوں پر نہ آپڑیں۔ اس لیے تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم یہیں قائم رہنا۔ چاہے مسلمان جنگ میں غالب ہوں یا مغلوب تمہیں اس ٹیلہ کو چھوڑنے کی منافی ہے۔ تم یہاں ایسی دربانی کرو اور اس پشتہ کے ایسے پشتیان بن جاؤ کہ اگر قریش کے سوار اس راہ سے آئیں تو اُن پر تم سب مل کر جوڑے پھال والے تیر (مشاقص) برساؤ (جنگی باشندے آج کل بھی مختلف شکاروں کے لیے مختلف پھال کے تیر استعمال کرتے ہیں) اس لیے کہ بہادر سپاہی تو لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتے مگر گھوڑے تیروں کے مقابل رخ نہ کریں گے۔ شکست و فتح کی اچھی بُری کوئی صورت ہو یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے علیے جا رہے ہیں اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت ہے تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ تم پر صرف عقب سے آنے والوں کی نگرانی ہی فرض ہے! —

ہدایات کے بعد آپؐ نے یہاں تک فرمایا کہ میں تم کو خدا پر گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تم کو اس ٹیلہ پر قائم رہنے کی تبلیغ کی (ارشاد الحکمة) تیر اندازوں (رُمَاة) کے متعین کیے جانے کے باعث اس جنگ کے بعد سے اس پہاڑی کا نام ہی "جبل الرماة" پڑ گیا۔

اس اہم مورچہ کے متعلق ایک غلط فہمی اور دور کرنی ہے۔ اسے اگر اس وقت (۵۳ھ میں) مشرقی داخلہ سے کھڑے ہو کر دیکھا جاتا (نقشہ دا کے داہنی رخ پر دیکھیے اس کا سائڈ منظر (SIDE-VIEW) جبل اُحد کے مشرق میں دیا ہوا ہے) تو ایک طرف جبل اُحد کی بلند دیوار کھڑی تھی پھر اس کے ڈھلوان پر نخلستان موجود تھا جس کی شہادت شریک جنگ اور رسول کریمؐ کی تلوار پانے والے ابو دجانہ کے ایک شعر سے ملتی ہے جو طبری اور ابن ہشام میں اس طرح محفوظ ہے:

أَنَا الَّذِي عَاهَدْتَنِي خَيْلِي وَنَحْنُ بِالسَّفْعِ لَدَى النَّخِيلِ

(میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے عہدہ لیا جبکہ ہم نخلستان کے پاس پہاڑ کے دامن میں تھے) دو چشمے آج تک جاری ہیں۔ جبل اُحد کے لُح و دِق عریاں پہاڑ میں جاذب چٹانوں کے نیچے پانی کی

سطح غیر جاذب چٹان پر سے گزرتی ہوئی ان چشموں کے پاس اُس وقت سے موجود ہے۔ جزائیائی اعتبار سے کھجور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاؤں پانی میں اور سر کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہو۔ یہ موزونیت اس مقام پر موجود تھی اور آج تک یہ چٹے بھی شہادت دے رہے ہیں۔

دوسری جانب حمزہ واقم (لابتہ) کا ڈھلوان اور نخلستان جبل الرّمّاء سے مل جاتا تھا۔ ان دونوں قدرتی دیواروں کے بیچ سے وادی قنّاء گزرتی ہوئی آگے میدان جنگ کی طرف بڑھتی تھی ایک تنگ راستہ تھا جس میں زیادہ سواروں کا بیک وقت گذرنا محال تھا کوئی دوسری راہ نہ تھی۔ لہذا سوڈیٹھ سو سواروں کو (جو بیک وقت گذر بھی نہ سکتے) روکنے کے لیے جبل الرّمّاء کے صرف پچاس تیر انداز کافی تھے جیسا آگے خود واضح ہو جائے گا۔ یہ تھی اُس وقت (۳۳ھ) کی صورت حال۔ مگر آج اسی موقع پر یہ داخلہ اتنا زیادہ چوڑا ہو گیا ہے کہ کسی سو گھوڑ سوار باسانی پچاس تیر اندازوں کی زد سے بچ کر اندر کی طرف داخل ہو سکتے ہیں۔ — توجیہ کی صورت یوں ہے کہ ۴۶ برس بعد ہی امیر معاویہ کے زمانہ میں سیلاب آیا تھا (غالباً وادی قنّاء میں) اور شہدائے اُحد کی قبریں کھل گئی تھیں (جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قبور سے نکال کر موجودہ قبر میں دفن کرنا پڑا) دیکھیے نقشہ نمبر ۱۰) مورخین کے مطابق تو وادی قنّاء میں بارہا شدید طغیانی آتی رہی ہے۔ بحرفِ مدینہ کی بقبہ دوسری وادیوں کی طغیانیوں بھی وادی قنّاء پر اثر انداز ہوتی رہی ہوں گی۔ — پوزیشن سمجھنے کے لیے نقشہ نمبر ۱۰ دیکھیے) ان طغیانیوں نے جبل اُحد کے نخلستانی ڈھلوان کو آہستہ آہستہ مسطح کر دیا۔ نیز وادی قنّاء کا پانی جبل الرّمّاء سے (جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سابق مدفن تھا) ٹکرا ٹکرا کر جبل الرّمّاء کے ڈھلوان کو بھی ایک حد تک دھو ڈالا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ جبل الرّمّاء پر زمانہ حال میں کچھ مکان تعمیر کیے گئے۔ ان کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے موجودہ مقبرہ اور عظیم الشان مسجد اور اس مسجد کے مشرق میں کسی درجن مکان تعمیر ہوئے اور ان سب میں لاکھوں مکعب فیٹ (CUBIC FEET) پتھر صرف ہوئے۔ قدرتی طور پر نخلستان بھی مٹا گیا اور پتھروں کے حاصل کرنے میں مٹی ڈھیل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر بارشوں سے زمین مسطح ہو گئی!

میدان جنگ میں اسلامی فوج کی ترتیب | غرض کہ اس اہم مورچہ کے بندوبست سے

جید عالم و مبلغ بھی تھے)

• ان سب کے ساتھ ابو بکرؓ، عمرؓ، عبدالرحمنؓ بن عوف، ابو جابرؓ، طلحہؓ بن عبید اللہ جیسے نامور بہادر بھی ہر وقت پیارے نبی کے ساتھ تھے۔

• بہادر عورتیں بھی ہمراہ لگتی تھیں۔ جو دونوں چشموں سے پانی بھر بھر کر سپا ہیوں کو پلائی رہی ہوں گی اور وقت ضرورت انہوں نے مرہم پی بھی کی ہوگی، اور زخمیوں کو مدینہ پہنچانے میں بھی مدد کی ہوگی۔

• پشت پناہی کے لیے جبل اُحد کی مستحکم دیوار تھی اور ایک نخلستان۔

• بدر کی جنگ کے قیدیوں میں سے ایک ہتھیار فروش کو ایک ہزار نیزہ وصول کر کے چھوڑا گیا تھا۔ وہ نیزے تو رہے ہی ہوں گے پھر بھی اسلامی فوج میں اسلام کی کمی تھی۔ آنحضرتؐ نے تاکید فرمادی تھی کہ اپنی طرف سے پہل نہ ہو اسنگ باری کے لیے پتھر کا قدرتی خزانہ تینوں طرف موجود تھا اور بوقت ضرورت درختوں کی شاخیں بھی!

• فوجی ترتیب کے بعد خود آنحضرتؐ نے وظائف سے فارغ ہو کر اول صف میں جگہ لی۔

قریش کو بدر میں عدم صف بندی کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس مرتبہ انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔

قریش کی فوجی ترتیب

(دیکھیے نقشہ نمبر ۲)

• بہمنہ پر خالد کا رسالہ رکھا جو سوسلح سواروں پر مشتمل تھا

• یسرہ پر عکرمہ بن ابو جہل کا رسالہ رکھا وہ بھی سوسلح سواروں پر مشتمل تھا۔

• دونوں کے درمیان خود ابوسفیان سپہ سالار کی حیثیت سے تھا۔

• آن کا علمبردار طلحہ تھا اور اس کے بعد اس کے بھائی عثمان پھر ابوشیبہ، صواب اور عمرہ بنت علقمہ

• ابوسفیان نے اپنے پاس ہی ابو عامر راہب کو رکھا (جس کے ہمراہ ڈیڑھ سو آدمی آئے تھے)

• پیدل فوج میں بڑے علم کے علاوہ ۳ اور جھنڈے تھے (آعابیش، لقیف اور کنادہ کے)

• تیر اندازوں کے دستے عبداللہ بن ابی ربیعہ کی کمان میں دیے گئے۔

• ان کے علاوہ پیدل فوج بھی تھی۔

سب سے پیچھے ممکن ہے کہ ایک آدھ ہزار اونٹوں کو بھی لاکھ باندی کر دی ہوتا کہ پیچھے ایک مضبوط دیوار سی رہے اور فوج آگے ثابت قدمی دکھاسکے۔ (جاہل عرب لڑائیوں میں اکثر ایسا کرتے تھے۔) (بحوالہ آئینہ عرب)

ان سب کے پیچھے قریشی کیمپ میں کثیر تعداد میں باستانی غلام، کم از کم ۱۰ ہزار اونٹ اور سرد وغیرہ کی موجودگی بھی تھی۔ جہاں تین دن سے مشرکین آ کر خیمہ زن تھے اور دوران جنگ مال و متاع و اسباب متفرقہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ (اونٹوں کی تعداد کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمیوں کی تعداد ۳ ہزار تھی۔ پھر خیموں اور ان کے چوبوں طنائوں و رسد اسلوحات اور دیگر مال متاع کے لادنے کے لیے بھی درکار تھے۔ اس حساب سے اگر ایک اونٹ پر دو آدمی ہوں تب بھی صرف آدمیوں کے لیے ۱۰ ہزار اونٹ چاہیے۔ بقیہ سامان کے لیے مزید درکار ہوں گے؛ گھوڑے کو تل تھے کہ وقت ضرورت کام آئیں — دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چندہ کرتے وقت منافع کے مال میں ایک ہزار اونٹ اس جنگی امداد میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ممکن ہے دیگر اشخاص نے بھی دیے ہوں گے!)

قریشی فوج پوری طرح مسلح تھی۔ ان کے پاس جنگ بدر کے سے سارے ہتھیار تھے۔ ڈھالیں، تلواریں، زره، خود (سر پہ)، جلم (چہرہ پر)، نیزے، گرز (دشمنوں پر)، تیر و کمان (دوش پر) خنجر و گوبھن (SLING) وغیرہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔

میدان کارزار کا ڈرامہ | سب سے پہلے قریش کی چودہ عورتیں ابوسفیان کی بیوی ہنہ کے ساتھ علمبردار کے بھائی عثمان کے پیچھے پیچھے دف پر یہ اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں اور سچے ڈرامہ کا پردہ اٹھ گیا:

نَحْنُ بَنَاتُ طَاسِقٍ نَهْنِي عَلَى التَّمَارِقِ

ہم آسمانوں کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں

إِنْ تَقْبَلُوا نَعَانِقَ أَوْتَدُ بِدُؤَانِفَارِقِ

اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے

عنوان ڈرامہ کے آغانہ سے پہلے ابو عامر راہب کا تعارف ضروری ہے۔ یہ مدینہ ہی کے قبیلہ اوکو

کافہ از فرد تھا۔ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ مشرکوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمام قبیلوں کو محمد کے خلاف کروں گا۔ یہ اندھیری رات میں اپنے ڈیڑھ سو شاگردوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچا اور مشرکین کی فوج میں شامل ہو گیا۔ غالباً ارشوال کو د آنحضرت کے فیصلہ کی خبر پا کر کہ مقابلہ شہر سے نکل کر کسی میدان میں کیا جائے گا، اس نے میدان اُحد میں بہت سے گڑھے رات رات کھدوائے تھے اور ان کے منہ پر گھاس وغیرہ رکھ دی تھی تاکہ مسلمان ان گڑھوں میں گریں اور ان کا زور کم ہو جائے۔ اُحد میں ابوسفیان کو ابو عامر راہب پر بڑا بھروسہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس راہب کے بہکانے سے انصار مدینہ رسول اللہ اور مہاجرین صحابہؓ سے الگ کیے جا سکیں گے۔ کیونکہ اسلام سے پہلے گڑھ و پار سائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا۔

(۱) مسلمانوں کی ابتدائی کامیابی | اس قیاس آرائی کے مطابق سب سے پہلے ابوسفیان نے ابو عامر کو آگے بڑھایا۔ اُس نے انصار مدینہ کے

سامنے ڈرامائی انداز میں ایک پُر فریب تقریر کی۔ مگر پختہ ایمان لوگ جب اس کے جال میں نہ پھنسے تو کھسیا کر خود بھی اُس نے پتھر مارا اور اس کے شاگردوں نے بھی پتھر مارتا ہی حرب و ضرب کی بنا تھی۔ چنانچہ مسلم جانباڑوں نے بھی پتھر کا جواب پتھر سے دیا اور یہ اکر ایہ کے ٹوٹا (MERCENARY AGENTS) ناکام بھاگے۔ کیا یہ سپہ سالار کی پہلی بھول تھی؟ ان کے پیچھے ہٹنے سے کتنے لوگوں میں پست تہمتی آگئی ہوگی!

اس کے بعد قریش کا علمبردار طلحہ غصہ اور جوش میں آگے بڑھا اُس کی للکار پر حضرت علیؓ تلوار لے کر آگے آئے اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی! اُس کا بھائی عثمانؓ علم سنبھالتا ہوا حملہ آور ہوا جس کا کام حمزہؓ نے تمام کر دیا۔ علم کو ابوشیبہ نے سنبھالا اور انہیں بھی حمزہؓ نے قتل کر دیا۔ اس پر قریشی فوج کی صفوں میں ربط و ضبط کی صورت قائم نہ رہ سکی اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ امدادی پیدل اور رسالے بھی بڑھے۔ اس طرح قریش نے گویا عام دھاوا بول دیا۔ رسالوں کو اس طرح سامنے بڑھا دینا ابوسفیان کی دوسری غلطی تھی! جس کا فائدہ رسول کریمؐ نے بروقت اٹھایا:

آپ نے فوراً حکم دیا کہ تیرا انداز آگے بڑھ کر تیرے برساتیں۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ پیادے

بیچ کر اور گھوڑ سوار لہرا کے گرتے۔ گھوڑے تیروں کی بارش سے زخمی ہو کر زخ پھیر لیتے اور سواروں کو گراتے ہوئے خود بھی پیر کے بل گرتے اور پیدلوں کو کچل دیتے بالکل اسی طرح تو سواروں کے بعد ۱۵۲۶ء میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے تیروں کی بارش سے ابراہیم لودھی کے ایک ہزار ہاتھیوں اور ایک لاکھ سواروں کا رخ پھیر دیا تھا؛ حضرت حمزہؓ کو زخم میں دیکھ کر حضرت ابو دجانہؓ دست رسالت کی تلامذہ اور پا کر آگے بڑھے۔ اسلامی جھنڈے کی داہنی طرف علیؓ اور بائیں طرف زبیرؓ بڑھ رہے تھے۔ یہ جانباز بہادر فوجوں میں گھس گئے اور صفوں کو چیر لاشوں پر لاشیں گراتے چلے جاتے تھے۔ سر پر سرخ پیٹی کی وجہ سے ابو دجانہؓ بہت نمایاں تھے اور تمھے بھی نامور بہادروں میں۔ آخر دم تک حضورؐ کی سپر بنے رہے۔ اور زبیرؓ کو تو ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب نے تربیت ہی اس نبیؐ پر دی تھی کہ آپ لازماً ایک اولوالعزم مستقل المزاج اور حوصلہ مند بہادر کی حیثیت سے اپنے کارنامے پیش کر رہے تھے۔ اور علیؓ کا کیا کہنا۔ وہ تو تمھے ہی مشہور و معروف بہادر اقریشی پیدل کا بھاری اسلحہ مصیبت کا سامان تھا۔ پاؤں اکھڑ گیا تو نہ شمشیر میں کام آ رہی تھیں۔ دوسرے اسلحہ!

خالد مکہ کے رئیس گھرانے کا فرد، لڑائی کے فن میں ماہر تھا۔ جنگ کے اس نقشہ کو دیکھ کر خالد اپنا رسالہ لے کر کبھی بائیں آجاتا اور کبھی دائیں چلا جاتا کہ کس صورت سے بھی اپنی فوج کو مدد پہنچا سکے۔ مگر ناکامی کا منہ دیکھتے دیکھتے اُسے یہ جنگی چال سوچھی۔ (ان کی پوزیشن میدان میں داہنی طرف، مینہ پرستی اس لیے وہیں سے وہ مقام نظر آ رہا تھا جس کے لیے تیر انداز جبل رماہ پر متعین کیے گئے تھے) کہ ۸ میل کا چکر کاٹ کر کیوں نہ اُس راہ سے حملہ کیا جائے؛ اور اس غرض سے غالباً زخمی سواروں اور رسالے کے کچھ حصہ کو عکرمہ بن ابوہل کی سپردگی میں چھوڑ کر خود ہی سو ڈیڑھ سو کا رسالہ لے کر ۸ میل کا چکر لگایا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱ اور ۲)۔

خالد کے رسالہ کی آہٹ پاتے ہی عبد اللہ بن جبیر جبل عینین پر چوکنے ہو گئے۔ اور بار بار خالد کو شش کرتے کہ وادی سے داخل ہو جائے مگر رسول کریمؐ کی ہدایت کے مطابق تیروں کی بارش سے ہر بار نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا (نقشہ نمبر ۱ کے سائڈ منظر کو دیکھیے) اور وہ مغلوب لوٹ کر عام راستہ سے ہٹ کر دامن اُحد اور نخلستان کی آڑ میں مایوس کھڑا ہو جاتا۔

چوڑے پھال والے تیروں کی مارا ایسی بُری تھی کہ گھوڑے آگے قدم بڑھانے میں لرزتے اور ڈرتے۔ بلکہ خوف سے ٹیلہ کی جانب رُخ نہ کرتے تھے۔ کیونکہ ٹیلہ ہی پر سے انہیں مار پڑتی تھی! ادھر میدان کا یہ حال تھا کہ قریش شکست کھا کر ہٹتے گئے۔ یہاں تک کہ اصحابِ محمدؐ ان کے لشکر گاہ میں داخل ہو گئے (کامل۔ ابن اثیر) کہاں میدان جنگ اور کہاں کیمپ! (دیکھیے نقشہ ۱۰) مسلمانوں کا ابتداءً پلہ بھاری رہا! دشمن کی فوج میں ابتری پھیلی چکی تھی وہ سرا سیر و ہراساں ہو کر جنگ سے تقریباً منہ موڑ چکے تھے۔ اپنی جانیں لے کر ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے! اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمانوں نے بہت بڑی غلطی کی! لڑنے والوں میں کچھ ایسے نا آزمودہ سپاہی بھی تھے جو تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور پہلے کسی اسلامی جنگ میں شریک بھی نہ ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ان ہی لوگوں نے غنیمت کی لوٹ شروع کر دی اور یہ فتنہ مالِ غنیمت بڑھتا گیا۔

(۲) خالد کا عقب سے حملہ | جبلِ عینین پر سے تیر انداز بھی جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے انہوں نے تقریباً ایک میل دور سے دیکھا (نقشہ ۱۰) اور زار

دیکھیے کہ دشمنوں کا سارا لشکر پسا ہو کر بھاگ اٹھا اور ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ مسلمان مالِ غنیمت لوٹنے میں محو ہیں۔ اس فتنہ نے ان کے دل میں بھی گھر کیا اور وہ حصولِ غنیمت کے شوق میں بے تاب ہونے لگے۔ ہر چند عبداللہ بن جبیر نے سمجھایا اور رسول کریمؐ کی اہم ہدایات کی یاد دہانی کرائی اور کسی حال میں جگہ نہ چھوڑنے کی تلقین کی مگر اکثریت نے ان کی ایک نہ سنی۔ اطاعتِ امر اور ڈیوٹی سے منہ موڑ کر کمان و ترکش اپنی پشت پر ڈالے اور غنیمت کی طرف لپکے!

خالد اپنا رسالہ لے کر منڈلار ہاتھا (نقشہ نمبر ۱۰) کے سائڈ منظر کو دیکھیے) پھر اُس نے سامنے آ کر ٹیلہ کی طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی تو ٹیلہ کو خالی پایا۔ اب تو گنتی کے سات آٹھ تیر انداز رہ گئے تھے جو اُس کا حملہ روکنے پر کسی طرح قادر نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا ایک ساعت بھی گنوائے بغیر خالد نے مسلمانوں پر پشت سے یلغار کر دی۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کے ترکش میں جب تک تیر رہے برساتے رہے۔ ترکش خالی ہو گئے تو پھر لڑھکانے لگے اور سواروں پر سنگ اندازی کرنے لگے۔ مگر ایک نہ کام آیا۔ بالآخر رسالہ کے سواروں نے ان کو آگے اور

سب کو شہید کر ڈالا۔

رسول کریم کی اس پشتہ بندی کو توڑنے کے بعد خالد نے ٹیلہ پر چڑھ کر میدان کی طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ قریشی کیمپ پر ایک میلہ سا لگا ہے۔ صفیں ٹوٹ چکی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ ہے کیونکہ مجاہدین اپنی تیغیں اور خنجر میان میں کیے ہوئے، ڈھالیں پشت پر لیے، ترکش بغل میں لٹکائے اور کمائیں دوش پر لیے ہوئے نہایت اطمینان سے لوٹ مار میں مشغول اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر نیچے اترا۔ اور سواروں کے دستہ کو لے کر وادی قناتہ کو پار کرتا ہوا بجلی کی طرح پیکا دیکھے نقشہ تبردا، اور زما اور نہایت بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کچھ ایسا تھا کہ سنبھلنا اور بچ نکلنا سخت مشکل تھا۔ سواران خالد جب بھالے تان کر آگے تو سب سے پہلے ٹیلہ چھوڑنے والے تیر انداز ہی مقتول ہوئے۔ ان کی ہاشمیں روندتے ہوئے گھوڑے آگے بڑھے۔ غنیمت لوٹنے والے گھبرا کر مڑے اور خالد کے رسالہ کا حملہ دیکھ کر بھاگی ہوئی قریشی فوج پلٹ کر حملہ آور ہوئی اور دونوں طرف کے حملے مٹھی بھر مسلمان بیچ میں پس گئے۔ لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا۔ مسلمان اس غیر متوقع صورت حال سے اس قدر سرا سیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر گھایوں کی طرف بھاگ نکلا (غالباً یہ بھی منافقین ہی کی ایک پارٹی تھی جو اس خطرناک پوزیشن کو دیکھ کر بھاگ نکلی) اور بقیہ افراد لڑتے لڑتے پھر مقابلہ کے ابتدائی مقام کی طرف آنے لگے بلکہ اُس سے بھی پار ہو گئے!

اسی اثناء میں مسلمانوں کے علمبردار مصعب بن عمیرؓ کو (جو آنحضرتؐ سے صورت شکل میں مشابہ تھے) قریشی فوج کے ابن قیہ نے شہید کر دیا اور یہ سمجھا کہ رسول اللہؐ کو شہید کیا ہے! بس اُس کے مشہور

(۳) رسول کریمؐ کی شہادت کی افواہ
اور
حزۃ رضیٰ کی حقیقی طریحی

کرنے سے یکایک میدان جنگ میں یہ خبرا لگتی کہ جناب رسالت مآبؐ شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے عام بدحواسی چھا گئی۔ صحابہؓ نے صبر و قرار کا دامن چھوڑ دیا جس کی ایسے موقع پر از حد ضرورت تھی، اور ان کے دل و دماغ میں انتشار پیدا ہو گیا۔ فاروق اعظمؓ نے بھی بے حد

پراگندہ خاطر ہوئے۔ نہ اب بازو میں بل تھا اور نہ پیروں میں سکت تھی دایسے آڑے وقت میں
 انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے پڑمردہ دلوں میں جوش پیدا کر کے خود ستر زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش
 کر لیا تھا، یہ خبر اور یہ افواہ جب مدینہ پہنچی تو ہر فرد کا دل ہل گیا۔ عورتیں اور بچے اس خبر کو
 سن کر بے تاب ہو گئے اور مخلصین اُحد کی طرف دوڑے۔ گھاٹیوں میں چھپنے والے بھی میلان
 کی طرف پھر پلٹے۔ قلعوں میں عورتیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یمان، اور ثابت بن چھوڑے
 گئے تھے۔ یہ دونوں بھی اُحد پہنچ گئے۔ اور غزوہ میں شامل ہو گئے ثابت نے کہا کہ: "ان کان
 مُحَمَّدٌ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ سَحَى لَا يَمُوتُ" "اگر محمد قتل کر دیے گئے تو اللہ زندہ ہے وہ
 نہ مرے گا" لڑے مشرکوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح باہم
 مل گئی تھیں کہ اگلی صفیں پھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ خود مسلمان
 مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے، اسی زوہیں یمان بھی آگئے۔ ان کے صاحبزادے حفصہ رضی اللہ عنہ چلاتے
 ہی رہے کہ یہ میرے باپ ہیں مگر کون سنتا تھا؟ اور وہ شہید ہو گئے!

اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جما ہوا تھا اور بھاگنے والوں
 کو پکار رہا تھا "إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ" اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ
 رسول اللہ نے مڑ کر دیکھا تو صف گیارہ جاں نثار سپہو میں تھے جن میں علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن
 ابی وقاص، زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ذر، ابو جابر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام خاص طور پر معلوم ہے۔ ایک نام اور شماس رضی اللہ عنہ
 بن عثمان کا آتا ہے کہ جب تک آپ کی قوت نے کام دیا آپ نے حضور پر آنچ نہ آنے دی حضور
 خود فرمایا کرتے تھے کہ "شماس کے لیے اسپر کے علاوہ اور کوئی تشبیہ مجھے خوب نہیں معلوم ہوئی"
 ایک نام اور سعد بن معاذ کا آتا ہے!

اسی گھسان میں لڑنے والے وادی قنات اور جبل الرماة کے بیچ تک نکل آئے دیکھیے
 نقشہ نمبر ۱۰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو درستی تلوار چلا رہے تھے اور کفار کی پوری جماعت
 میں ایک سردار بھی ایسا تھا جو آپ کے سامنے ٹھہر سکے، ایک قریشی جوان (سباع) کو ہلاک
 کرنے میں مصروف تھے کہ جبل عینین کے شمال مشرقی ڈھلوان پر ایک چٹان کی آڑھے حبشی
 وحشی نے دجو حمزہ رضی اللہ عنہ کی تاک میں بیٹھا تھا جیسا کہ روایت میں اسی کی زبان سے سنا جاتا ہے:

”وَكُنْتَ لِحِمْرَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ“ (اور حمزہ کے لیے ایک پتھر کی آڑ میں میں نے اپنی کمین گاہ بنا رکھی تھی) خریبہ (چھوٹا نیزہ جو جیشیوں کا خاص ہتھیار ہے (JAVELIN) تول کر ایسا مارا کہ حمزہ رضی کے شانہ پر (ناف کے نیچے) لگا اور پار ہو گیا۔ انہوں نے ناہنجار وحشی کو ٹیلہ پر دوڑایا اور یہ جنوبی ڈھلوان پر چھپنے کی خاطر بھاگا مگر مشرقی موڑ پر جب حمزہ رضی اس کے پیچھے مڑے تو اتفاقاً اُن کا قدم پھسدا اور اچانک نیچے ایک گڑھے میں لڑکھڑا کر جا گرنے اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی نے بدر کے موقع پر دیگر ناموران قریش کے علاوہ قریش کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کو (جو ہند کا باب تھا) اور جھیر بن مطعم کے چچا کو مارا تھا انکی شجاعت و دلیری نے قریش کے حوصلے پست کر رکھے تھے اس بنا پر موجودہ قریشی لشکر کے سپہ سالار کی بیوی ہند (امیر معاویہ رضی کی ماں) نے جھیر کے ہمیشی غلام وحشی کو جو حربہ اندازی (JAVELIN THROW) میں کمال رکھتا تھا حضرت حمزہ رضی کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ لہذا وہ انہی کی تاک میں تھا اور آخر کار ایک بزدلانہ حملہ کے ذریعہ ”قاتل حمزہ رضی“ ہو ہی گیا۔ دپھران کی نعش وحشی اور ہند کے ہاتھوں اور بھی بگاڑ دی گئی تھی!)

کفاز کے علیہ دار لڑ لڑ کر گرتے جاتے مگر ایک علیہ دار کی جگہ دوسرا حاضر ہوتا جاتا اس طرح ابو شیبہ کے بعد صواب نے اور صواب کے بعد ایک بہادر عورت عمرة بنت علقمة نے سنبھان لیا تو اور بھی قریشیوں کی ہمت بندھ گئی۔

(۴) رسول کریم نظر آگئے | اتنے میں أدہ عتبہ بن مالک رضی کی نظر رسول اللہ پر پڑتی ہے کہ وہ حملہ آوروں کے تیغ میں لڑ رہے ہیں چاروں طرف سے نا امید نہ تھا یہ جو بیہوشی نہیں کر منتشر تھے اب پلٹ کر غصہ میں جل بھن کر آنے لگے ابوسفیان بے تاب پھر رہا تھا۔ رسول کریم پر حملہ کرتا مگر نہ کام رہ جاتا۔ اسی اثناء میں دور سے حنظلہ نے تاک تاک کر بھل کی طرح ابوسفیان کی طرف پھینکا۔ اس کے گھوڑے کی گردن اڑا کر ابوسفیان پر چڑھ بیٹھا اور اس کا کلا کاٹنے ہی جا رہا تھا کہ قریشی نیزوں نے حنظلہ کو چھلنی کر ڈالا۔ ابوسفیان جھٹ ایک دوسرے گھوڑے پر جان بچا کر بھاگا۔ یہ حنظلہ (غسیل الملائک)

ابو عامر زاہب کا بیٹا تھا جس کی شادی ایک روز قبل ہوئی تھی!

جب صحابہؓ رسول کریمؐ کی طرف چلے تو قریشی فوج کو بھی اُس نقطہ کا پتہ مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دشمن کے سپاہیوں، سواروں اور تیراندازوں نے سخت دھاوا کیا۔ آپؐ پر تیروں کی بارشیں ہونے لگی۔ ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، زبیرؓ اور طلحہؓ وغیرہ سیر بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ جیسے ماہر تیراندازوں نے تیر کی بارش بھی کی اور رسول کریمؐ کی حفاظت بھی حضور کی حفاظت کرتے کرتے ابو طلحہؓ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا مگر منہ سے اُف تک نہ نکلتی تھی۔ اس جاب بازی سے خوش ہو کر حضورؐ نے فرمایا تھا: "فوج میں ایک ابو طلحہؓ کی آواز سنو! آدمیوں سے بہتر ہے۔"

سہ پہر کا وقت تھا۔ ابوسفیان نے

(۵) حملہ کی نئی ترکیب اور رسول کریمؐ مجروح

دیکھا کہ مسلمانوں کا استقلال اب تک

باقی ہے! میدان میں بات کوئی بنتی نظر نہیں آتی اگر یہی صورت قائم رہی تو رات آپہنچے گی اور ہمارے موت خود ہی ہو جائے گی۔ لہذا اُس نے اپنے افسروں کو یہ حکم دیا کہ فلاں طرف محمدؐ لڑ رہے ہیں۔ ان کو ان کے ساتھیوں سے الگ کرنے کی کوشش کرو اور ساتھیوں کو بھی دور بے جا کر الگ الگ دائروں (CIRCLES OR TRAPS) میں لے لو اور کھودے ہوئے گڑھوں سے بھی

کام لو۔ پھر تنہا ان پر حملہ کر بیٹھو۔ چنانچہ اب یہ نئی ترکیب عمل میں لائی گئی۔ مسلمان بے بس سامان

کے ساتھ ساتھ تعداد میں بھی تھوڑے تھے جبکہ مقابل میں سیکڑوں گھوڑ سوار اور ہزاروں کا

ہجوم! دائرے اور حلقے بننے لگے۔ گویا دریا کی بساط پر بہت سے بھنور پیدا ہو گئے۔ اس طرح

ذاتِ اقدسؐ پر شدید حملے ہوئے۔ جھولیوں میں پتھر بھر کر گوبھین (SLING) کے ذریعہ

سنگباری ہوئی۔ ابن شہابؓ نے آپؐ کی پیشانی خون آلود کر دی۔ عتبہ بن ابی وقاصؓ نے

دو بھائی تھے سعدؓ بن ابی وقاصؓ کے جو مسلم فوج کے منقرضہ الجیش میں رکھے گئے تھے، تاہم توڑ

چار پتھر کھینچ کھینچ کر مارے جن سے آپؐ کے نیچے والے دو دانتوں کے بغل کا چوگھر ٹوٹ گیا اور نیچے

کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اتنے میں ابن قتیہؓ (جس نے مصعب بن عمیرؓ کو شہید کیا تھا اور فواہ محمدؐ کے

بارے میں اڑ گئی تھی) ڈراتا ہوا آنحضرتؐ کے قریب پہنچا اور تنوار کا وار کیا تو نیچ میں ام عمارؓ

نے بڑھ کر وار کر رکھا لیا اور زخم کھانے پر بھی توار سے وار کیا مگر وہ دہری نہ رہنے ہوا تھا

اس لیے کارگر نہ ہوا۔ ابن قتیہؓ کے ایک وار سے بغل کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چھب کر رہ گئیں۔

اتفاق سے اسی مقام پر ابو عامر راہب کا کھدوایا ہوا خنس پوش گڑھا تھا جس میں آپ کا قدم مبارک چلا گیا۔ گڑھے کے اندر بھی پوشیدہ طور پر سنائیں اور خنجر کھڑی کر دی گئی تھیں جن سے آپ کچھ مزید مجروح ہوئے۔ آپ کے جاں نثاروں نے آپ کو گڑھے سے نکال کر دائرے میں لے ہوئے (خصوصاً حضرت طلحہؓ) نزعہ اعداء سے بچاتے ہوئے، سینہ و بازو پر زخم کھاتے ہوئے عسکر اسلامی (کیمپ) کے دہانے کی طرف ایک پہاڑی غارت تک لے گئے (نقشہ نمبر ۱۰، اور زائد دیکھیے) طلحہؓ کی انگلیاں شہید ہو گئیں مگر کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ چونکہ یہ غار سطح زمین سے چار فٹ بلندی پر تھا اور آپ ڈہری زرہ پہننے ہوئے تھے۔ اس لیے بوجھ کے باعث اچھل کر خود نہ پہنچ سکتے تھے تو طلحہؓ نے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ پشت کا سہارا لے کر پہنچ گئے۔ (آپ کے نمایاں کاموں کی بدولت حضرت عمرؓ زندگی بھر طلحہؓ کو "صاحب اُحد" کہتے رہے۔ یہ محفوظ غار اتنا بڑا ہے کہ جس میں ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا اور متعدد لوگ اس کے بازو بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی حالت میں آپ کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ "وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے؟" جس پر بعد میں اللہ نے تمبیہ کی تھی کہ فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے! (آل عمران)

(۶) گوشہ تیمار واری | زخمی حالت میں معفر کی کڑیاں چھبی ہوئی تھیں اور آپ پہاڑی کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ابی ابن خلف گھوڑے پر سوار بھالا تانے ہوئے نبی کا نام لے لے کر پکارتا ہوا آیا پھر اُس نے وار کر دیا۔ آپ اس وقت نہتے تھے مگر آپ نے کسی پتیرے سے نیزہ اس کے ہاتھ سے چھین کر ایسا مارا کہ وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اس وقت تو نہ مرا مگر زخم ایسا کاری تھا کہ واپس جاتے وقت راستے میں مر گیا۔ اسی طرح ایک اور قریشی پہلوان عبداللہ بن مجید جو اپنی شجاعت کی وجہ سے "أسد قریش" کہلاتا تھا۔ پہاڑی کی طرف رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے لگا رہتا ہوا گھوڑے پر آیا۔ سننا تھا کہ فوراً ابو دجانہؓ اُس پر جا پڑے۔ گھوڑے کی پیٹھ ہی پر سے اُسے دبوچ کر پھاڑا اور بکری کی طرح ذبح کر ڈالا۔ اب اسی غار میں معفر کی دونوں چھبی ہوئی کڑیاں ابو عبیدہؓ ابن الجراح نے (جو مقدمۃ الجیش میں تھے) اپنے دانتوں سے نکالیں مگر اپنے دونوں سامنے والے دانت

کھو بیٹھے۔ رسول کریم کو پیاس کی شدت تھی۔ پہاڑ ہی کے اوپر کسی چٹانی گڑھے سے جہاں تھوڑا پانی جمع تھا (مگر صاف نہ تھا) حضرت علیؓ اپنی سپر میں بھر کر لائے۔ اتنے میں آنحضرتؐ کے متعلق افواہ سن کر فاطمہؓ (آپؐ کی دختر) مدینہ سے بے تابی کے ساتھ آ پہنچیں۔ دیکھا کہ ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ اُس پانی کو رسول کریمؐ پی تو نہ سکے لیکن اُس سے آپؐ نے کُلی کی اور کب کے خون کو صاف کیا۔ حضرت فاطمہؓ چہرہ مبارک دھو رہی تھیں۔ جب خون نہ تھا تو بالآخر کھجور کی ایک چٹائی جلانی گئی اور آپؐ کا زخم اُس سے بھر دیا گیا (أَخَذَ حَصِيدًا فَأُحْرِقَ فَمُشِي بِهَا جُرْحَهُ) جس سے خون فوراً تھم گیا۔ معلوم ہوتا ہے اُس فار کی پشت پر عسکر اسلامی کے ایک محفوظ گوشہ میں زخمی سپاہیوں کو بھی لاکر رکھا گیا تھا کیونکہ تواریحی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں (حضرت عائشہؓ، امّ سلیمؓ، امّ سلیطہؓ وغیرہ) دور سے پانی بھر بھر کر لارہی تھیں۔ اور قریب ترین پانی کے ذخیرے وہی دو چشمے تھے جو نخلستان کے قدموں میں تھے جن میں قدرتاً صاف پانی بھر رہا تھا۔ یہ بھی کم از کم نصف میل کی دوری پر تھے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۰ اور ان چنانچہ صاف پانی کی تلاش میں پہلے محمدؓ ابن مسلمہ (کعب ابن اشرف کے قاتل) اُن خواتین کے پاس گئے جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ مگر اتفاقاً ان کے مشکیزے بھی خالی ہو گئے تھے دشکیزوں کا رواج تو حضرت حاجرہ ہی کے وقت سے معروف تھا) اس لیے ایک مشکیزہ لے کر خود ہی چشموں تک گئے اور بھر کر صاف پانی لائے تو آنحضرتؐ نے نوش فرمایا!

(۷) خالد و ابوسفیان متاثر
خالد نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ جو جنگی چال چلی تھی وہ ایک حد تک کامیابی کا باعث بنی۔ بلکہ اسی نے لڑائی کے

پانسہ کو بھی ہلٹ دیا تھا مگر مسلمان جانباڑوں خصوصاً محمدؐ کا یہ ضبط، یہ اطمینان، اور یہ صبر دیکھ کر اُس کا دل پکار اُٹھا کہ ”تو کس ہستی سے معرکہ آرا ہوا ہے؟ یہ ضبط و اطمینان پیمبر کے سوا کسی اور سے ناممکن ہے! بشر کتنا ہی صابر ہو اس میں یہ نشان کہاں!“ ان ہی خیالوں میں وہ الجھ کر رہ گیا اور اس زبردست عملی نمونے کو میدانِ جنگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اسی تاثر سے اُس کے دل کی گہرائیوں میں اسلام نے گھر کر لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اسے اسلامی کیمپ میں کھینچ لایا۔

پراگندگی کی صورت میں مسلمانوں کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا مگر پھر بھی جب حق نے میدان میں دوبارہ استقلال و استقامت کا نمونہ پیش کیا تو ابوسفیان کے دل پر بھی خوف کا سکہ جم گیا اور علامتی غلبہ کی صورت کو غنیمت جان کر اپنی فوج معرکہ کارزار سے ہٹالی۔

(۸) ابوسفیان کا چیلنج | سلامتی کی خبر پا کر مسلمان سپاہی غار کی طرف چڑھنے لگے۔ غار

والی پہاڑی پر مسلمانوں کے ہجوم کو دیکھ کر ابوسفیان سے نہ رہا گیا۔ وہ چند سپاہیوں کے ساتھ پھر اس پہاڑی کی طرف بڑھا اور چڑھنا چاہا، مگر صحابہ نے مل کر وہ سنگ بازی کی کہ وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اتر کر غالباً مغربی جانب مقابل پہاڑی پر چڑھ گیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۷) اور پکارا "یہاں محمد ہیں؟" جواب نہ پا کر ابو بکرؓ اور عمرؓ کو نام لے لے کر پکارا۔ جب آواز نہ آئی تو بولا "سب مارے گئے؟" حضرت عمرؓ سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ بول اٹھے؛ "اود دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں!" اس کے بعد ابوسفیان نے جبل و عزیٰ بتوں کا نام لے لے کر اظہارِ تباہی کیا۔ جس پر رسول خداؐ کے حکم سے صحابہؓ نے خدائے تعالیٰ کے نام کو سربلند کیا۔ ابوسفیان نے چیلنج دیا کہ آئندہ سال پھر بدر ہی میں تم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ صحابہؓ نے جواب دیا کہ یہ دعوتِ جنگ منظور ہے۔ — ابوسفیان مع چند سپاہیوں کے اب پہاڑی موڑ کے ایک ایسے مقام پر تھا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۷، اور ۱۸) جہاں سے اس کا کیمپ بھی آڑ میں ہونے کی وجہ سے نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اور تقریباً ۱۰ میل کی دوری پر تھا۔ اسی لیے میدان بھی خالی نظر آنے لگا۔ سب ساتھی کیمپ کی طرف چلے گئے تھے شام ہونے والی تھی (جس کا ڈراس کے دل میں پہلے سے تھا لہذا اب وہ میدان خالی کر کے اپنے کیمپ کی طرف چلا گیا اور خیموں کے اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب 'عہد نبویؐ کے میدانِ جنگ' سے بھی استفادہ کیا گیا،

قتال کے بعد شہادت گاہ کا منظر | (دارالشمس) کی شام کو اُحد کی وادی ایک ناقابل فراموش ٹریجک سین پیش کر رہی تھی — (استفادہ

از شاہنامہ اسلام۔ حفیظ جالندھری) کہیں بازو، کہیں سر، کہیں خون آلودہ تن، کہیں تیرو کمان کے ٹکڑے، کہیں شہ شیر کے قبضے، کہیں میانیں، کہیں ٹوٹے ہوئے نیزے، کہیں ٹوٹی ہوئی

ڈھالیں، کہیں پھوٹے ہوئے مغفر، کہیں زرہیں، عجیب منظر تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اُس ریگ و سنگ کے خطے میں جبل اُحد کے خشک پہاڑ کے دامن میں تیغ و خنجر کا کھیت پھلا پھولا ہے جس میں کہیں کہیں مقتول گھوڑے بھوری بھوری ریت کے ٹیلے سے نر آ رہے تھے جہاں ابھی چند گھنٹے پیشتر ایک ہنگامہ محشر پاتا تھا۔ وہاں اب ایک عالم فراموشی اور عبرت کی مدہوشی مسلط تھی! اسی خاموش وادی میں اُن ستر شہدا کے خون آلود لاشے بھی پڑے تھے جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ گو اس وقت فرشِ خاک پر وہ سو رہے تھے مگر ان کا مقدر جاگ اُٹھا تھا! کچھ لاشے جبلِ رُماء کے قرب و جوار میں پڑے ہوئے تھے۔ جن میں سے ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش شہادت گاہ کی نہ صرف نگہبانی کر رہی تھی بلکہ جبلِ الرماہ کے دامن میں تیر اندازوں کی غلطی کی شہادت بھی فراموشی کے ساتھ دے رہی تھی! اس شہادت گاہ میں زیادہ بن بن مسکن بھی پڑے ہوئے تھے جنہوں نے جان دیتے دیتے اپنے رخسار رسولِ کریم کے تلوؤں سے لگا دیے تھے۔ اسی شہادت گاہ میں سعد بن ربیع کی ہستی بھی تھی جنہوں نے جان توڑتے توڑتے رسولِ کریم کی خدمت میں اپنا آخری سلام بھیجا اور اہل اسلام کو یہ پیغام کہ ”جب تک ایک جھپکنے والی آنکھ بھی تم میں سے باقی رہے اُس وقت تک اگر دشمن نبیؐ تک پہنچ گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے“ (طبری)

آنحضرتؐ کی پھوبھی صفیہ بنت عبدالمطلب (حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں) جب مدینہ سے اس شہادت گاہ کی طرف آئیں تو آنحضرتؐ کی اشارہ پر زبیر رضی اللہ عنہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش دیکھنے سے روک لیا لیکن پر استقلال مومن نے کہا: ”مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی گئی اور اُس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ بیٹا! میں نہ روؤں گی، نہ چلاؤں گی۔ صرف دعا پڑھ کر لوٹ جاؤں گی۔“ چنانچہ لاش دیکھ کر ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہہ کر چپ ہو رہیں اور مغفرت کی دعا کی (طبری)

بنو دینار کی ایک عورت کے باپ، بھائی اور شوہر سب کے سب اس شہادت گاہ میں خاموش سو رہے تھے۔ جب محمدؐ کے متعلق افواہ سن کر وہ مدینہ سے آئی اور باری باری تین مذکورہ حادثوں کی خبر اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی کہ ”رسول اللہؐ کیسے ہیں؟“

لوگوں نے کہا "بمراۃ اللہ وہ تو بخیریت ہیں" جب اُس کی نگاہ چہرہ مبارک پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھی۔ "حَلَّ مُصِيبَةٌ بَعْدَ ذٰلِكَ جَلَدٌ" (آپ زندہ ہیں تو اب ہر مصیبت مسیح ہے) (طبری) ہر خاندان اپنے اپنے شہداء کی تلاش و شناخت میں تھا کہ خاندان عبدالاشھل کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اُحیرم بن ثابت ہچکیاں لے رہے ہیں۔ دریافت پر پتہ چلا کہ بالکل آخر میں اسلام لاکر شامل ہو گئے تھے! لوگ انہیں گھراٹھا لے گئے۔ وہاں انتقال فرما گئے۔ جسے سن کر آنحضرتؐ نے فرمایا تھا:

عَمَلًا قَلِيلًا وَّ اَجْرًا كَثِيرًا فَاِنَّهٗ
لَمَنْ وَصَلَ الْجَنَّةَ۔
انہوں نے عمل تھوڑا کیا مگر اجر بہت پایا اور وہ
یقیناً جنت میں داخل ہوں گے۔

شام ہو رہی تھی ابھی تدفین باقی تھی۔ حضرت حمزہؓ کو تو جبل الرماة کے دامن ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا دیکھیے سابق مدفن حمزہؓ رضی اللہ عنہ۔ نقشہ نمبر (۱) یہ ایک خاص مقام تھا۔ رسول کریمؐ نے انہیں "سید الشہداء" کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ سیلاب کے بعد بھی ان کا موجودہ مقبرہ باقی شہداء کے مقبروں سے علیحدہ رکھا گیا ہے) (دیکھیے نقشہ نمبر (۱) رہ گئے بقیہ ۶۹ تو ان کے لیے قبریں کھودی گئیں اور ایک ایک قبر میں دو دو رشتہ داروں کو دفن کیا گیا۔ ان شتر قیمتی خزانوں کو دفن کر کے رسول کریمؐ نے دعائے مغفرت کی اور مدینہ کا رخ کیا۔ نمازیں تو میدان ہی میں ادا ہوتی رہیں۔ عشاء کی نماز مدینہ کی مسجد میں پڑھی گئی۔ آنحضرتؐ اُحد سے پلٹے تو سیدھے مسجد ہی میں داخل ہوئے اور بہت سے زخمی صحابہؓ بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ نماز کے بعد آگ جلا کر ایک دوسرے کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے مجاہدین مثلاً بنی عبدالاشھل و بنی حارثہ وغیرہ کو گھر جا کر تیمارداری کی اجازت دے دی تھی۔ بنی عبدالاشھل کے لوگ زیادہ شہید بھی ہوئے تھے اور زیادہ مجروح بھی) یہ لوگ جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو تمام مدینہ ماتم کردہ بنا ہوا تھا۔ اور نوحہ کی رسم بد کے مطابق عورتیں زور زور سے چیختی چلاتی تھیں۔ آپؐ نے اسی دن سے یہ رسم بد بند کر دی اور فرمایا کہ آج سے کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے۔ مسلمان تو غم زدہ تھے۔ لیکن یہود و منافق شاد و خندان تھا! منافقین طرح طرح کے طعن و تمسخر اڑا رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ "ہماری صاحب رائے کسی نے نہ مانی" "یہ مجاہدین تو

ایک بھاری مصیبت ساتھ لائے ہیں۔ ”ان مجرموں کو ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلط کر لیا“ اور
 ”آثار بتا رہے ہیں کہ اور بھی بھاری مصیبت آنے والی ہے۔“ مگر ان ساری نفاق کی باتوں نے
 مخلصین کو ذرا بھی قنوطیت کا شکار نہ ہونے دیا۔

یہ ہے داستانِ اُحد جسے ۳ سال بعد جنگِ خیبر سے واپس ہوتے ہوئے دیکھ کر رسولِ کریمؐ نے فرمایا:

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَيُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

یہ ایک پہاڑ ہے جس کو ہم سے محبت ہے اور

ہمیں اُس سے محبت ہے۔

رسولِ کریمؐ ہر سال شہدائے اُحد کی قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے جب وہاں داخل ہوتے
 تو شعبِ دگھائی یا وادی کی طرف رخ کر کے فرماتے:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَدَرْتُمْ

تم لوگوں پر سلام تمہارے صبر و استقامت

کے صلہ میں کیا خوب ہے دارِ الاُخرت۔

فِنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی طرح ہر سال ان قبور کی زیارت کرتے تھے۔

واقعاتِ میدان کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ دراصل
نتائج و اسباق | ایک ناتمام جنگ رہی ماس لیے کہ کسی کو نہ صاف صاف فہم نہ کہا جاسکتا

ہے نہ مکمل شکست خوردہ۔ نہ کسی فریق کا کوئی آدمی دوسری طرف قید ہوا البتہ دونوں طرف نقصان
 ضرور ہوئے۔ اور مسلمانوں کے ستر شہداء میں سے زیادہ تو جبل الرماة کی غلطی کرنے والوں ہی
 کی تھی! اگر وہ غلطی نہ کرتے تو شاید جنگ بدر سے بھی کم شہداء نظر آتے (حالانکہ معرکہ زیادہ زبردست
 تھا) اور جنگ کا اختتام صاف صاف فتح کی شکل میں ہوتا! دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو

پہلے رسولِ کریمؐ ہی کی مختصر جمعیت کا پلہ بھاری رہا۔ یہاں تک کہ ابوسفیان کیمپ تک دبا دیا
 گیا۔ مگر رسولِ کریمؐ بھی اس کے شکر پر اس وقت مکمل قابو نہ پاسکے کیونکہ جبل الرماة والوں
 نے حکمِ عدولی کی اوزخالد کے رسالہ نے عقب سے حملہ کر کے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ دونوں
 طرف سے پس جانے کے بعد بھی رسولِ کریمؐ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا یہاں تک کہ
 جب ابوسفیان آپؐ کے کیمپ تک پہنچ گیا تب بھی وہ آپؐ پر مکمل قابو نہ پاسکا اور بلا کسی
 ظاہری سبب کے اپنے آپ میدان چھوڑ کر قریشی کیمپ کی طرف لوٹ گیا اور کوچ کی تیاری

کر دی۔ اس جنگ سے اندرونی فائدہ کسے پہنچا اور کون ہارا کون جیتا؟ اس کا انکشاف ذیل کی سطور سے خود بخود ہو جائے گا۔

ایک خاص طرز فکر پر جو جماعت ابھی تازہ تازہ بنی تھی اس کی تربیت بھی مکمل طور پر نہ ہو سکی تھی کہ یہ جنگ مدافعت سر پر آ پڑی۔ لازماً بعض کمزوریوں کا بھی ظہور ہوا۔ لہذا اس جنگ کے بعد ہی قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں (سورہ آل عمران میں تیرھویں رکوع سے ختم سورہ تک) ان میں اللہ تعالیٰ نے خود اس جنگ پر ایک مفصل تبصرہ کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے ساری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح کی ہدایت کی ہے۔ اس ہدایت کی روشنی میں مندرجہ ذیل حقائق پر خصوصاً غور کرنے کی ضرورت ہے:

(۱) اس جنگ نے تطہیر کی ایک پُر امن راہ نکالی — عبداللہ بن ابی کے روئے نے میدان جنگ کے عین دروازے پر پہلی ضرب کاری لگائی۔ پھر بقیہ جماعت میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس جنگ نے یہ معلوم کرنے کا پہلا موقع دیا کہ اپنے گھر میں اتنے مارا آستین موجود ہیں جو باہر کے دشمنوں سے مل کر اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تیلے ہوئے ہیں۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

(آل عمران: ۱۶۶-۱۶۷)

یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تھا تمہارے سینوں میں
پوشیدہ اُسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے
دلوں میں ہے اُسے چھانٹ دے۔

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيَسْمَعْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

(آل عمران: ۱۵۴)

یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے
درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت
اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں
امنوا ویتخذ منكم شهداء

(آل عمران: ۱۴۰)

سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا
چاہتا تھا جو واقعی شہداء ہیں (یعنی شہداء اعلیٰ انسا
اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑ
رکھے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ
پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا
دل شکستہ نہ ہو۔ غم نہ کرو۔ تم ہی غالب
رہو گے اگر تم مومن ہو۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ
مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ - (آل عمران: ۱۶۹)
لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران: ۱۳۹)

(۲) شہادت کے متمنی لوگوں کے لیے (جن کے اصرار پر رسول کریم نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا
فیصلہ فرمایا تھا) امتحان، آزمائش و تجربہ کا موقع بہم پہنچا۔ وہ اللہ کی راہ میں مرنے کو سعادت سمجھتے
تھے۔ عقیدہ کا یہ ہتھیار کامیابی کا اصل سبب تھا۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُم فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ
وَأَنْتُمْ مُنظَرُونَ ۝
تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے! مگر یہ اس وقت
کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب
وہ تمہارے سامنے آگئی اور تم نے اسے اپنی آنکھ
سے دیکھ لیا (آل عمران: ۱۴۳)

(۳) ذمہ دار کے احکام کی نافرمانی فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ رسول اللہ نے
اپنی کم تعداد والی فوج کو جمع کرنے کے لیے نہایت عمدہ جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ پشت میں اُحد کا
سلسلہ خود ایک قدرتی دیوار تھا جو فوج کو گھیرے ہوئے تھا۔ بالائی سطح سے آنحضرتؐ کو
پچھے کی طرف دشمن کی نقل و حرکت صاف صاف دکھائی پڑتی تھی اور حملہ کرنے میں بھی آسانی
تھی۔ اس پوزیشن کی وجہ سے مسلمانوں کا کم نقصان ہوا۔ اگر جبل الرماة والوں کی غلطی نہ
ہوتی تو شاید یہ نقصان صفر کے برابر ہوتا۔ بھلے میں یہ اندازوں ہی کی زیادہ تعداد موت
کا شکار ہوئی! پہاڑی پر وحشی کو گتات لگانے کا موقع ملا اور ایک او لوالعزم جانیازہ حمزہ رضی
کی جان گئی اور رسول کریمؐ مجروح ہوئے۔ جس کا احساس خود شہداء کا یہ جنگ کو ہوا۔ اللہ نے

جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اُس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے اذن سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نہی کہ وہ چہرہ اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں ان کے مقابلہ میں سپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جاؤ تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اُس وقت تمہاری اس روش کے بدلہ میں اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے۔ اور جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ (آل عمران)

(۴) توکل علی اللہ کا سبق۔ سامان بھی کم اور فوج کی تعداد بھی بے حد کم۔ صرف اللہ پر توکل دشمن کے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو کھینچ لے گیا۔ اور آخر معرکہ تک رسول کریم ﷺ نے اس کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے صحابیوں کو بھی ابوسفیان کے جواب میں اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنے پر اکسایا اور اللہ کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ البتہ جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسہ پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون جو تمہاری مدد کر سکتا ہو۔ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (آل عمران)

”لہذا آئندہ تم ان سے نہ ڈرنا۔ مجھ سے ڈرنا۔ اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو لے سکتے ہو جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں تمہیں آزر دہ نہ کیں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ دے۔“

بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ (آل عمران)

(۵) سبر اور خدا ترسی کی کمی تھی جس کی بنا پر ڈیوٹی چھوڑ کر تیر انداز غنیمت کی طرف دوڑے تھے۔ مگر جن صحابیوں میں یہ صفات موجود تھیں انہوں نے ان کا مظاہرہ کیا اور رسول کریم ﷺ کو ذمہ تک اپنے عمل سے ثبوت دیتے رہے!

اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی
روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
(آل عمران: ۱۸۶)

(۶) موت کا ڈر کمزوری کی جڑ ہے۔ اسلامی تحریک کی بقا کا مدار کسی شخصیت سے وابستہ نہیں
ہے۔ بلکہ اس کے خالص اصولوں پر ہے۔ جب یہ غلط خبر مشہور ہو گئی کہ آنحضرتؐ شہید ہو گئے تو
جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ یہ بالکل غلط رویہ تھا۔ موت کے خوف سے بھاگنا فضول ہے۔
موت تو اٹل ہے اور اپنے وقت ہی سے آئے گی۔ اس حالت میں دی ہوئی مہلت کے ایک ایک
سکنڈ کو اللہ کی ہی راہ میں لگا دینا چاہیے۔

محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔
ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر
وہ مرجائیں یا قتل کر دئے جائیں تو تم لوگ اٹلے
پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو! جو اللہؐ سے
وہ اللہؐ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ البتہ جو اللہؐ
کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی
جزا دے گا۔ کوئی ذمی روح اللہ کے اذن کے
بغیر نہیں مڑ سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ
يُضْرِبَ اللَّهُ شِئْئًا مِنْهُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ
الشُّكْرُ مِنْهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
مُؤْتَجِلًا (آل عمران: ۱۴۵-۱۴۶)

(۷) مذکورہ بالا حیثیتوں سے اعتراف کرنا پڑے گا کہ اللہ کی وادی اس تازہ جماعت کی
تربیت کا نہ صرف پیش خیمہ بنی بلکہ ایک انوکھی عملی تجربہ گاہ (UNIQUE PRACTICAL
LABORATORY) ثابت ہوئی۔ پھر کیوں نہ رسولؐ خدا کو اس تربیت گاہ سے محبت ہوتی؟
(۸) خالد بن ولید متاثر ہوتا ہے۔ — مقابل فریق کے ایک ذہین افسر خالد بن ولید نے
اسلامی جماعت کے مظاہرہ میں خصوصاً اس کے بلند سیرت اور عالی ظرف رہنما کے استقلال
کا بغور مطالعہ کیا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ آج اس وادی میں لگا رہا تھا اور اس کے
طرز عمل سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی کہ وہ اس جنگ کو انتہائی کامیابی کی منزل تک

پہنچانے کے لیے پختہ عزم رکھتا ہے اور اسی لیے مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو انگیز کرنے اور ہر
مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے وہ بے حد متاثر ہو کر واپس ہوا! اسی طرح ابھی
بھی کچھ کم متاثر نہ ہوا ہوگا؟

یہ ہیں وہ سبق آموز حقائق جن پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ ان سے سبق لے کر عمل کی ضرورت
ہے۔ اللہ نے تو خود وعدہ فرمایا ہے؛

”میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خواہ مرد ہو یا عورت۔ تم سب
ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری
راہ میں اپنے گمروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے۔ ان
سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے تحت
نہر س جاری ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔“
(دال عمران)

END

سمریہ حمراء الاسد (اوار ۱۲ اشوال ۱۱۰)

(ضمیمہ اُحد)

یہ کوئی علیحدہ جنگ نہ تھی بلکہ تجسس کے لیے دشمن کا ایک تعاقب تھا جو اُحد کے بعد فوراً ہی کیا گیا۔ اس لیے اسے "ضمیرہ اُحد" کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

میدان اُحد سے سینچر ہی کو ابوسفیان اور اس کا لشکر تقریباً ۸ میل پہرہ نکلا اور ۸ میل لمبی وادی العقیق کو پار کرتے ہوئے ذوالحلیفہ تک پہنچ کر (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) اس نے کاروانی راستہ اختیار کیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) جس کے منازل میں حمراء الاسد کی منزل مدینہ کے جنوبی حد جبل عیر سے تقریباً ۸ میل کی دوری پر آئی مگر وہاں نہ رکا۔ بلکہ چلتے چلتے کچھ رات گئے آگے روعاء میں ٹھہرا۔ لشکر کے لوگ تھک کر بہت ہی خستہ حال ہو چکے تھے رات بھر آرام کیا۔

جنگ اُحد پر اللہ نے تو بعد میں تبصرہ والی آیات نازل کیں مگر کوچ کرتے ہی قریش کا سپہ سالار طرح طرح کے خیالات میں غلطاں و بیجاں چلا جا رہا تھا۔ اسی کش مکش اور الجھن میں رات تو کسی طرح کاٹ دی مگر صبح آگے نہ بڑھا۔ ایک طرف تو سب کھانے پینے کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف قائدین نے اس انا تمام جنگ پر تبصرہ شروع کر دیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی کہ محمد کی طاقت کو توڑ دینے کا جو سنہرا موقع ہاتھ آیا تھا اُسے کھو کر چلے آئے۔ قریش مکہ کے ساتھ دوسرے قبائل بھی تو شریک تھے۔ سارے قبائل ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے کہ محمد کو قتل کیوں نہ کیا، لوگ مختلف افسروں

قریشی تبصرہ

کے بھی شاک تھے۔ بہتوں کو سپہ سالار ابوسفیان ہی کے متعلق شکایت تھی۔ معلوم نہیں قبائل کے سربراہوں نے کس کس طور پر لوگوں کو اُحد کے محاذ پر لا ڈھکیلا تھا۔ وہ الزام دے رہے تھے کہ تم نے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں دلائی تھیں۔ اب کیوں واپس پٹا دیا؟ (طبری)

مسلمانوں کی جمعیت قائم ہے۔ ان کے عمائدین باقی ہیں خصوصاً علیؑ کی سلامتی کامرتوں رنج رہا۔ کیونکہ علیؑ نے بدر کے موقع پر ابوسفیان کے بیٹے اور عقبہ کے بیٹے کو قتل کیا تھا اسی لیے ہندہ نے حمزہؑ کے علاوہ محمدؐ اور علیؑ کے قتل پر بھی وحشی کو آمادہ کر رکھا تھا! اور ہم گھر چلے جا رہے ہیں۔ غلبہ تو حاصل ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ چلو مدینہ کی ٹوٹیں اور محمدؐ کو قتل کریں (ابن سعد) اندرون طور پر ابوسفیان بذات خود حنظلہؑ کی ضرب کاری کے تصور اور اصحابِ محمدؐ کی جانبازی و سرفروشی سے بے حذر مرعوب ہو چکا تھا۔ صرف ظاہر امور کہہ رہا تھا کہ اگر سب کی یہی مرضی ہے تو میں بھی متحہ نہ موڑوں گا۔ حالانکہ ہم نے بدر کا پورا پورا انتہا لے لیا ہے دمحض دو ایک نعشوں کے اعضاء کاٹے جانے، محمدؐ کے زخمی ہو جانے اور دو تین عمائدین شہید ہو جانے پر لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا) مدینہ سامنے ہے۔ ابھی ہم کچھ دور نہیں ہیں۔ مگر ہمارے بھی بہت سے آدمی زخمی ہیں۔ اگر جنگ میں پھر کوئی اُلجھاؤ پیدا ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی اتنے میں مرئی صفوان ابن اُمیہ نے قریش کو دوبارہ مدینہ کی طرف پلٹنے سے منع کیا اور اس طرح سمجھایا کہ اسی غلبہ کو غنیمت جانو اندیشہ ہے کہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اب پھر نہ مجتمع ہوں۔ (طبری) ایک ہی دن کی بات تو تھی۔ میدانِ جنگ کا نقشہ بھی انہیں نہیں بھولا تھا کہ محمدؐ کی قبیل جمعیت نے پہلے ہی دھاوے میں قریش کے لشکرِ جرار کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اصحابِ محمدؐ ان کے کیمپ تک جا گھسے تھے۔ یہ تو تیر اندازوں کی غلطی تھی کہ غنیمت کے چوڑے میں ٹیلہ خالی کر دیا اور خالد نے قریش کی عزت رکھ لی۔ اس غلبہ کو غنیمت جاننے کی طرف صفوان نے بھی نشانہ ہی کر دی تھی! اسی تذبذب میں قریش کا لشکر تھا اور اب تک فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ واپس جائیں یا پلٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہوں! — کیا یہ سارا تبصرہ اعترافِ شکست کا رنگ نہیں رکھتا؟

محمدؐ کے نزدیک تعاقب کی اہمیت | دونوں فوجیں جس وقت میدانِ جنگ سے الگ

ہوئیں تو اصحابِ محمدؐ بھی زخموں سے چور تھے۔ سینچر کے روز اُحد کا اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرے ہی دن (اتوار کی صبح) آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا ہے۔ یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں تک اور کتنے دنوں کے لیے جانا پڑے؟ آپؐ نے یہی حکم دیا کہ صرف وہی لوگ نکلیں جو معرکہ اُحد میں شامل تھے۔ جسے توفیق ہو زادِ سفر بھی لے لے۔ حالانکہ بہت سے صحابہؓ کے پاس زتو سواریاں تھیں نہ اسلحو۔ زخم خوردہ ہونے پر بھی پتے مومن، بلیک، کہتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ نکلے۔ گو ان میں سے بعض کو لنگہ اتے ہوئے ہی چلنا پڑا یا بمشکل تمام اونٹوں یا اپنے ساتھیوں کی پیٹھ پر ٹکنا پڑا۔

بظاہر جنگ اُحد کے بعد یہ فوری تعاقب بے موقع اور فضول سا معلوم ہوتا ہے! مگر ہادیؑ اسلام کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی۔ کیونکہ آپؐ دیکھ رہے تھے کہ اُحد سے واپسی پر مدینہ میں منافقین اور یہود مسلمانوں کے نقصانات پر خوش ہو رہے تھے اور انہیں مغلوب سمجھتے ہوئے شیر ہوئے جا رہے تھے اور اُنندہ ان کی طرف سے خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ دوسرا اندیشہ یہ تھا کہ دشمن کی ۳ ہزار کی تعداد مدینہ کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور ہوں۔ اور مختصر سی فوج کو روندتے ہوئے قصبہ میں آگھسیں، آتش زنی و لوٹ مار کریں اور عام تباہی آجائے! لہذا آپؐ نے تعاقب میں عجلت فرمائی۔ اس عجلت کا راز یہ تھا کہ قریش کو یہ احساس ہو جائے کہ محمدؐ مع اپنے اصحابؓ کے پھر مقابلے کے میدان میں نکل چکے ہیں اور وہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کے پلان سے باز آجائیں۔ اور وہ قطعی نہ معلوم کر سکیں کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی خود مسلمانوں کو ڈھارس ہو جائے کہ اس تھوڑی سی مصیبت اور نقصان کے لیے ہماری اولوالعزمی میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ تیسری اہمیت یہ تھی کہ اندرونِ شہر اور مضافات میں ہنسی اڑانے والوں پر دھاک جم جائے۔ چنانچہ جب زخمی مسلمان مدینہ سے قریش کے تعاقب میں چلے تو سارا مدینہ ان کی جرأت پر حیران تھا! کیونکہ یہ ایسی صورت حال تھی جس کی کوئی بھی توقع نہ رکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہادیؑ اسلام کو اپنی اقلیت سے ایک بڑی اکثریت کے مقابلہ میں اس انوکھے انداز سے کام لینا تھا جتنا بڑے سے بڑے انتظام سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا! (جیسا کہ آگے معلوم ہوگا)

معبد خزاعی کا جاسوسانہ رول

بدر اور مکہ کے درمیان ساحلی علاقہ میں بنو خزاعہ
رہتے تھے۔ اس قبیلہ نے اب تک اسلام نہیں قبول

کیا تھا۔ لیکن اسلام کے حلیف اور راز دار تھے۔ جنگ بدر کی اسلامی فتح سے بھی متاثر ہو چکے ہوئے
قریش اور عام کفار جو منصوبے اسلام کے خلاف بنایا کرتے تھے اس سے آنحضرتؐ کو وہ ہمیشہ
باخبر کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اُحد سے قبل جس وقت قریش کا لشکر جرار کاروانی جنگل سے گزر کر
مدینہ کی طرف مڑا ہوگا (دیکھیے نقشہ اب) اس پاس کے قبیلوں کو فوراً اس کی خبر ہوگئی ہوگی چنانچہ
اس قبیلہ خزاعہ کا رئیس معبد بھی چونکا ہو کر جنگل کے پاس کسی ساتھی کے ہمراہ مختلف خبروں کی
ٹوہ میں رہا ہوگا اور تصدیق کے بعد مدینہ کی طرف بڑھا ہوگا۔ سینچر کی سہ پہر کو میدان چھوڑتے ہی
ابوسفیان نے آگے آگے کسی قاصد کو مکہ کی طرف محمدؐ کی شکست کی خبر دے کر روانہ کیا ہوگا راستے
میں سنتے ہی (مکن ہے روعاء میں سینچر کی رات ہی ملاقات ہوئی ہو جبکہ قریشی لشکر نے پڑاؤ
ڈال دیا تھا) معبد غالباً قبایک راہ سے جلد مدینہ پہنچا اور ہمدردی میں آنحضرتؐ کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ محمدؐ تیار ہو کر تعاقب میں اتوار کو نکلے (مکن ہے معبد سے روعاء کی رپورٹ
سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہو) اور ادھر کچھ معبد کو قبایک راہ سے واپس کر دیا ہوتا کہ وہ
قریشی لشکر کی نقل و حرکت کی مزید خبر ہم پہنچائے۔

معبد واپس ہو کر جب اتوار کی سہ پہر کے قریب روعاء پہنچا تو قریشی عمائدین جنگ اُحد پر
تبصرہ کے بعد سے مدینہ پر دوبارہ حملہ کے متعلق مذہذب بیٹھے تھے۔ معبد کو مدینہ کی طرف سے
جاتے ہوئے دیکھ کر مدینہ کے متعلق مزید خبروں کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ ابوسفیان نے
اس سانڈنی سوار سے مدینہ کی خبریں دریافت کیں اور اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ معبد کو بڑا
اچھا موقع ہاتھ آیا اور اس نے ابوسفیان کو اس طرح خوفزدہ کیا کہ — "محمدؐ اس سرور مسلمان
سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے (بخاری) جب میں نکلا تو وہ لوگ چل چکے تھے۔
مدینہ والے کل کا بدلہ لینے کے لیے تم پر دانت پیس رہے ہیں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ
سب جمع ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے باہم قسم کھائی ہے کہ تمہارا بیچھا کریں گے اور بغیر تم سے
دوچار ہوئے واپس نہیں پلٹیں گے (طبقات ابن سعد) میں سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں یترب

طیش میں ہے۔ میں نے کسی کو نہ روتے دیکھا نہ سر پیٹتے (طبری) اب تمہارے لیے پلٹے جا کوئی
 امکان نہیں بلکہ اس میں تباہی ہوگی! دیکھو اور سنو کہ گھوڑوں کی ٹاپیں تک سنائی دے
 رہی ہیں! — یہ خبریں بیان کر کے معبد خزاعی بدر کے جنگش کی طرف بڑھ گیا تا کہ ان کی آئندہ
 نقل و حرکت کی تفتیش کرے اور اپنے جاسوسانہ رول سے ہادی اسلام کو نفع پہنچائے معبد
 خزاعی کی یہ باتیں ابوسفیان کے دل میں اس لیے اور بیٹھ گئیں کہ وہ اس کے قیاس اور صفوان ابن
 امیہ کی رائے کے عین مطابق تھیں۔ چنانچہ سب کے سب سرا سیم ہوئے اور ابوسفیان نے حکم
 دیا کہ خمیے گراؤ اور جلد یہ جگہ خالی کرو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اونٹوں اور گھوڑوں
 کو ساتھ لے کر بھاگے۔

دن بھر چل کر سہ پہر کے وقت جب آنحضرتؐ حراء الاسد
 پہنچے دیکھے نقشہ نمرب (تو یہیں رُک جانا اس لیے

حراء الاسد کی کیو فلا جنگ

مناسب سمجھا کہ معبد کے ذریعہ انہیں خبر رہی ہوگی کہ قریش کا لشکر تھوڑی دور آگے روعاء کے مقام
 پر خمیزن ہے۔ آپؐ نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا اور سعد بن معاذ، حضرت علیؓ اور ابو بکرؓ کو حکم دیا کہ
 آگے جا کر قریش کے متعلق خبر لائیں کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں؛ خصوصاً اس بات
 کا پتہ لگائیں کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اونٹ ساتھ لیے جا رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہیں اور
 خالی گھوڑے ساتھ ہیں، یہ مخبرین تفتیش میں نکل گئے تو آپؐ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگل سے لگا ہوا
 جمع کر کے مغرب بعد فوج کا ہر فرد پہاڑیوں پر اور میدان میں الاوروشن کرے۔ حکم کے مطابق ہر
 طرف آگ روشن کی گئی اور یہ ہدایت ملی کہ زخمی اس آگ سے زخموں کو اطمینان کے ساتھ سینکیں
 اور دوسرے لوگ کھانے پینے کا نظم کریں۔

یہ دونوں کام تو ایسی شہرہ آگ سے بھی باسانی لیا جاسکتا تھا جسے آٹھ آٹھ دس دس مل کر
 جلا لیتے مگر فرداً فرداً روشن کرنے کی ہدایت ہی میں راز مضمحل تھا! ان دونوں کاموں کے علاوہ
 ایک عظیم تر حربی مقصد سامنے تھا یعنی "کیو فلا جنگ" (CAMOUFLAGING) دشمن
 کے مشاہدے اور اندازنے کو شکل بدل کر دھوکا دینا، آج دنیا کی جنگوں میں محض کیو فلا جنگ
 (CAMOUFLAGING) کی ندر پر میٹری سبٹ کا لاکھوں روپیہ طرح طرح کی شکلوں میں

صرف کیا جاتا ہے۔ مگر حمراء الاسد کے مقام پر اسی کام کو ہادی اسلام نے بلا خرچ کیا! تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اُس رات پانچ سو لاکھ روشن کیے گئے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم جمعیت ۵۰۰ رہی ہوگی۔ جنگ اُحد کے میدان میں ۷۰۰ میں سے ۷۰ شہید ہو چکے تھے۔ زیادہ زخم خوردہ ناقابلِ سفر مدینہ ہی میں چھوڑ دیے گئے اور کم از کم اس فوری مہم میں مناقبول کی وہ پارٹی بھی شامل نہ ہوگی جو میدان سے لڑتے لڑتے گھاٹیوں میں بھاگ گئی تھی۔ اس حساب سے اصحابِ محمدؐ کی تعداد کا پانچ سو کے لگ بھگ ہونا بعید نہیں۔ حمراء الاسد کا مقام بلندی پر ہے اور روعاء نشیب کی طرف ہے۔ چونکہ قریش روعاء کو غالی کر کے جنگل ہوتے ہوئے نشیب کی طرف جا رہے تھے اس لیے ان کو حمراء الاسد کے ٹیلوں اور میدان پر روشن الا و بڑی تعداد میں نظر آئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا تاریکی کے سبب سے درمیانی خطِ نظر سے اوجھل رہا مگر ۱۶/۱۵ میل کی دوری سے بھی (حالانکہ گھاٹیوں کا چکر دار فاصلہ حمراء الاسد سے روعاء تک تقریباً ۲۸ میل تھا) صاف معلوم ہوتا رہا ہوگا کہ لا تعداد روشنی پہاڑیوں سے نشیب کی طرف اتر کر ان کے پیچھے چل آ رہی ہے۔ آج کی جنگوں میں رات کے وقت 'بلیک آؤٹ' (BLACK OUT) کیا جاتا ہے کہ دشمن مخالف کیمپ کو بم کا ہدف نہ بنا سکے۔ حمراء الاسد کے مقام پر آنحضرتؐ نے 'لائٹ آن' (LIGHT ON) یعنی منور کر کے یہ اثر ڈالنا چاہا کہ دشمن کو ہدف حمراء الاسد کا کیمپ نظر آجائے اور وہ خود ہدف سے مرعوب ہو۔ کیا یہ عجیب 'کیمو فلا جنگ' (CAMOUFLAGING) نہ تھی؟ چنانچہ یہی ہوا کہ اتنی تعداد میں روشنی دیکھ کر ابوسفیان کو معبد کی باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ سارے لشکر کی ہمت پست ہو گئی اور وہ بے تماشہ گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ حمراء الاسد کے تعاقب اور قریش کے بھگڑ کر جن جن قبائل نے دیکھا ہوگا وہ تو یقیناً یہی سمجھے ہوں گے کہ یہ اُحد سے ہار کر بھاگے جا رہے ہیں اور محمدؐ اور ان کے اصحابؓ پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔

تفتیش کے ذریعہ اطمینان اور واپسی | ادھر تین مجربین روعاء پہنچے اور آگے بڑھ کر مضافات سے خبریں حاصل کر کے لوٹے ہیں

انہیں کافی دیر ہو گئی۔ پھر بھی دو شنبہ کی صبح سے پیشتر ہی حمراء الاسد پہنچ کر آنحضرتؐ کو اطلاع دی کہ قریش کا لشکر روعاء میں سے پہرتک تھا۔ مگر شاید ہمارے تعاقب سے آگاہ ہو کر

یہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ اوفٹوں پر سوار جا رہے ہیں اور گھوڑے کو تل ہیں زنجیبہ پہلو میں چل رہے ہیں، اس خبر سے آنحضرتؐ نے یہ نتیجہ نکالا کہ دشمن لمبے کوچ کا ارادہ رکھتا ہے۔ مدینہ پر ڈھاوے کا نہیں (ابن ہشام) پھر بھی آپؐ مطمئن نہیں ہوئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ کاروانی جنگشن سے پار مکہ کی سمت موڑ لے کر دشمن کے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد (دیکھیے نقشہ نبرب) خبر رسائی میں معبد خزاعی کو وقت لگا۔ اس کے پیغام آنے تک آنحضرتؐ کو ٹھہرنا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ حمراء الاسد میں ۳ دن تک ٹھہرے رہے۔ اور جب پیغام آ گیا کہ قریش اب دور چلے گئے ہیں اور مکہ سے پہلے دم نہ لیں گے تو آپؐ کو مکمل طور پر اطمینان ہو گیا اور آپؐ مدینہ واپس لوٹ گئے۔

اُحد کی جنگ تو قریش جیتے نہیں بلکہ یہ ناتمام ہی رہ گئی تھی تو پھر اپنا اثرات و نتائج

فوجی دستہ مدینہ میں کیسے چھوڑ جاتے؛ اسی طرح اپنے ثنائی کاروانی راستہ کی مستقل حفاظت کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دے سکے۔ لہذا جیسے ہی قریش اور ان کے ہمراہی مدینہ سے دور نکل گئے محمدؐ اپنے اصحابؓ کو لے کر اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ایک ماہ میں ان کے زخم بھی سب مندمل ہو گئے اور جلد ہی انہوں نے اپنا کھویا ہوا وقار نہ صرف حاصل کر لیا بلکہ اپنے اثرات مشرق میں نجد تک اور شمال میں کاروانی جنگشن دومتہ الجندل کے قریب تک پھیلا دیے۔ اور قریش کا نہ صرف شام و مصر کا راستہ مؤثر طور سے بند کر دیا بلکہ عراق کا بھی۔ خود شہر مدینہ میں بھی وہاں کے یہودیوں کی بتدریج جلا وطنی اور نو مسلم عرب قبائل کی آباد کاری سے مدینہ کی حالت مستحکم کرنے میں بھی اس وقار کا بڑا دخل تھا۔ (اس جنگ (تعاقب) کی طرف قرآن کریم۔ بڑے اس طرح اشارہ کیا ہے:

جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیکو کار اور پسینہ کار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
مِنْ بَعْدِ مَا اصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط
لِلَّذِينَ احْسَنُوا مِنْهُمْ وَاَتَقُوا
اَجْرًا عَظِيمًا

(آل عمران: ۱۷۲)

بنو النضیر کے ساتھ جنگ

(ربیع الاول ۱۰ھ)

جنگ کے اسباب (۱) عبد اللہ بن ابی (رئیس المنافقین) پہلے سے بنو النضیر کا حلیف اور ہم پیمان تھا۔ چونکہ حقیقتاً وہ اسلام کا سخت دشمن تھا (جیسا کہ ہمیشہ اس کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا رہا) یہودیوں نے اس کو نہایت آسانی سے ملایا تھا اور اس کے ذریعہ سازش اور خفیہ کارروائیوں میں آسانی تھی۔ عبد اللہ بن ابی نے کہلا بھیجا تھا کہ تم اطاعت نہ کرنا۔ میں دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور بنو قریظہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود بنو النضیر کے حشر پر بطور تبصرہ قرآن کریم میں ایک مستقل سورۃ (الحشر) ہے جس میں اس امداد کا وعدہ کا بھی تذکرہ ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ
لَنُضَيِّقَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ
أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ (الحشر: ۱۱)

کیا تم نے منافقوں پر نظر نہیں کیا جو اپنے بھائیوں
کفار اہل کتاب سے کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکالے
جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہونگے
اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی ماننے
ہی کے نہیں اور تم سے لڑاں ہوگی تو ہم تمہاری
مدد کریں گے؟

(۲) بنو النضیر اور اہل قریش سے شروع ہی سے ساز باز اور خفیہ خط و کتابت چل رہی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے بعد ہمدردی میں کعب بن الاشرف مع چالیس سواروں کے مکہ تک گیا

اور قریش کے علاوہ تمام قبائل کو ابھارا۔ ان سرگرمیوں میں اُسے اپنے ننھیال بنو النضیر سے پوری مالی امداد پہنچی ہوگی۔ غزوہ سؤقی کے سلسلہ میں ابوسفیان کو بنو النضیر کے سردار مہتمم خزانه ہی نے نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ مدینہ کے مخفی اور کزدر مواقع سے باخبر کر دیا تھا۔

(۳) بدر کے بعد قریش نے یہودیوں کو خط لکھا تھا کہ:-

إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْفَةِ وَالْحُصُونِ وَإِنَّكُمْ تَعَاوَانُ صَاحِبِنَا أَوْ لِنَفْعَلَنَّ
كَذًا أَوْ كَذًا - وَلَا يَحْوُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَاءِ كَسْ شَيْبَى "

"تم لوگ اسلحہ جنگ اور قلعوں کے مالک ہو۔ تم ہمارے حریف محمدؐ سے لڑو۔ ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے۔ تمہاری عورتوں کے کپڑوں تک پہنچنے سے ہمیں کوئی شے نہ روک سکے گی۔"

اس خط کے ملنے پر بنو النضیر نے عہد شکنی اور آنحضرتؐ کے ساتھ فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے قلعے واقعی مضبوط تھے جن پر انہیں ناز تھا اور جن کا ظاہر اظہور پر فتح ہونا بھی آسان نہ تھا اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ آنحضرتؐ راتوں کو گھر سے نکلے تو یہودیوں کی وجہ سے جان کا خطرہ رہتا تھا۔

(۴) کعب بن الاشرف نے بھی دھوکہ سے محمدؐ کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی اور اس سازش میں ضرور بنو النضیر کا ہاتھ رہا ہوگا پھر ایک خون بہا کے سلسلے میں دجواب تک معاہدہ کی رو سے بنو النضیر پر واجب الادا تھا، آنحضرتؐ بنو النضیر کے پاس تشریف لے گئے۔ آپؐ بالاخانہ کی دیوار کے سایہ میں کھڑے تھے کہ ایک یہودی عمرو بن حجاج کو ٹھے پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر آپ کے سر پر گرا نا ہی چاہتا تھا کہ آپؐ کو معلوم ہو گیا اور فوراً آپؐ واپس چلے گئے۔

(۵) بنو النضیر نے مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ کسی حکمت عملی سے محمدؐ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ تجویز ٹھہری کہ مذہبی علماء کے مباحثہ میں تیس آدمیوں کے ساتھ آپؐ کو مدعو کیا جائے۔ پہلے آپؐ راضی نہ ہوتے۔ جب صرف تین آدمیوں کے ساتھ آنے کی شرط لگائی گئی تو راضی ہو گئے۔ لیکن سازش کی گئی تھی کہ یہود تلواریں باندھ کر تیار رہیں اور آتے ہی آپؐ کو قتل کر دیں۔ اتفاقاً بنو النضیر کی ایک

عورت نے اپنے ایک منہ بولے انصاری بھائی پر یہ راز ظاہر کر دیا اور خفیہ پروجیکٹ (SECRET

PROJECT) کی اطلاع آپؐ کو راستہ ہی میں ہو گئی اور آپؐ واپس ہو گئے۔

(۶) ان ساری سازشوں کی موجودگی میں بھلا ایسے خطرناک عنصر کو مدینہ کے قلب میں کیسے گوارا کیا جاسکتا تھا؟ بنو قینقاع تو پہلے ہی جلا وطن کیے جا چکے تھے۔ رہ گئے بنو قریظہ اور بنو النضیر۔ اس لیے پُر امن روابط کو برقرار رکھنے کے لیے یا تو یہ دونوں قبیلے اپنے اپنے معاہدہ کی تجدید کریں یا پھر اور کہیں جا کر بس جائیں۔ یہ دونوں قبیلے سامنے رکھی گئیں۔ بنو قریظہ نے چالاک سے اپنے معاہدہ کی تجدید کر لی۔ لیکن بنو النضیر شرارت پر تیلے ہوئے تھے انہیں چونکہ دوسری طرف سے شہ مل رہی تھی۔ اس لیے بھلا وہ کیسے راضی ہوتے؟ چنانچہ انہوں نے تجدید معاہدہ سے انکار کر دیا اور اپنا سامان لے کر کہیں جانے پر بھی تیار نہ ہوئے بلکہ کھلم کھلا اسلام کے دشمن ہو گئے۔ دوسرے الفاظ میں گویا بنو النضیر نے اعلان جنگ کر دیا اور محمد کو انہیں دشمن تصور کرنا پڑا!

واقعات جب بنو النضیر قلعہ بند ہو گئے تو رسول کریم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قینقاع کے ۱۵ روزہ محاصرہ سے کچھ تجزیہ ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ پورے نظم کے ساتھ تیاری کی گئی شہر اور اسلامی محلوں کے علاوہ کلیدی مقامات پر چوکیاں بٹھادی گئیں۔ مثلاً قبائلم الصغیان کی جانب۔ تلمہ مارع (دالم حسان بن ثابت) کی جنوب مشرقی جانب۔ چونکہ عبداللہ بن ابی اور بنو قریظہ سے بنو النضیر کو مدد پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لیے بنو قریظہ کے محلہ کے مغربی رخ پر بھی (جہاں وادی مہزور حرہ واقع کو چھوڑ کر عوالی کے باغوں میں داخل ہوتی ہے) نگرانی نہ دی تھی۔ چوکیاں بٹھانے کے بعد آنحضرت نے محاصرہ کے لیے اپنا پڑاؤ ایک مناسب مقام دم پر ڈال دیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱)

محاصرہ آپ کو بنو النضیر کے محلہ کا کرنا تھا۔ اس لیے محلہ سے تقریباً سو گز دور کیمپ ڈالا اور یہ مرکزی نقطہ عمل ایسی جگہ رکھا جہاں سے دیار بنی قریظہ پر بھی نگرانی کر سکتے تھے اور مشرقی سمت سے ہو کر آنے والی ساری کمک کو روک سکتے تھے۔ یہ نقطہ دیار بنی قریظہ سے دور تھا مگر دیار بنی النضیر سے قریب۔ یہ دونوں یہودی محلے حرہ دلاوا کے چٹان کی بلندی پر بسے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ وادی مہزور سے پانی لیتے تھے۔ بنو النضیر کے محلے کے درمیان ہی سے مذنیب بہتی تھی اور کعب بن الاشرف کے قصر کے بغل میں سنگین حوض تھا جس میں غالباً مذنیب سے پانی کا ذخیرہ مہیا کر کے مختلف کاموں میں اسے استعمال کرتے تھے۔ قصر کے اندر بھی کنواں تھا بنی النضیر کی آبادی تقریباً

دوڑھائی بزار تھی اور یہ سب اپنے محلہ اور قصر کعب بن الاشرف میں (جو پہلے ہی قتل ہو چکا تھا) قلعہ بند ہو چکے تھے۔ ان دونوں یہودی محلوں کے درمیان عوالی کے گھنے باغ تھے جن کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ تین طرف بندی پر حرہ کے چٹان میں اور ان کے درمیان کا خطہ کچھ نشیب میں ہے جس میں وادیوں کی مٹی پھیل ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرہ کے جاذب چٹانوں سے بارش کا پانی جذب ہو کر ایسی سطح پر پہنچ جاتا ہے جس کا لیول (LEVEL) اس نشیبی خطہ کے قریب ہے (بئر اریس اور بئر رومہ کا ذوا می پانی آج تک اس کی شہادت دے رہا ہے) لہذا یہ خطہ ہمیشہ سے نخلستان اور بسا تین کے لیے موزوں رہا ہے چٹانوں پر تو درخت ہوتے نہیں۔ البتہ زمین سے ملحق ڈھلوان پر کچھ دور تک درخت اگتے ہیں مگر ان درختوں کی طرح عمدہ نہیں ہوتے جو نشیبی خطوں میں اگتے ہیں۔

پوری تیاری کر کے آنحضرتؐ اس مقام پر مدینہ سے تقریباً ۳ میل دور تشریف لائے۔ کھانے پینے اور رسد کا انتظام شہر ہی سے رکھا اس میں آسانی تھی۔ حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں شرقی جانب کی کمان تھی (یعنی میسرہ) حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں غربی جانب کی کمان تھی (یعنی یمین) اور حضرت علیؓ کے ہاتھ میں وسطی کمان تھی (یعنی قلب یا مقدمتہ الجیش) بنو النضیر کے پورے محلہ کو گھیرنے اور دن رات کے پہرہ کے لیے آپؐ نے سپاہیوں کی ٹولیاں مقرر کر دی تاکہ بار بار باری ڈیوٹی دے سکیں۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آرام کرنے اور کھانے پینے کے لیے معقول جگہ کی ضرورت تھی۔ اپنے اسلحہ جات اور دیگر سامان کے لیے بھی اسٹور کی ضرورت تھی اس کے لیے سایہ دار کھجوروں کے گھنے درختوں کا جھنڈ کافی تھا۔ مزید حفاظت کے لیے آپؐ نے کڑی کا کرہ بن پڑاؤ ڈال دیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۱) پڑاؤ ڈالنے کے بعد بنو النضیر کے پورے محلہ کو اگر طرح گھیر لیا کہ کسی طرف سے نہ کوئی نکل کر باہر جاسکے اور نہ باہر سے کسی قسم کی مدد محلہ میں پہنچ سکے مرکزی نقطہ رمل کے ارد گرد مباحثہ میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ دورانِ محاصرہ اسلامی کیمپ سے دیار بنی النضیر اور دیار بنی قریظہ کا مسلسل مشاہدہ ضروری ہے تاکہ ان کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاسکے۔ اور اس کے مطابق فوری احکام جاری ہوتے رہیں۔ مگر جب کیمپ سے دونوں محلوں کی طرف نگاہ دوڑائی جاتی تو (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۱) 'رم د' اور 'ام ب' زاویوں کے درمیان کے کھجور کے درخت یہودیوں کے قلعوں کو آڑ کر لیتے تھے جیسا کہ

دیکھیے نقشہ نمبر ۱۷۔ (۱۷) 'ع م ف' اور 'ع م ق' زاویوں سے ظاہر ہے۔ غرضکہ 'رم د' اور 'ام با' (نقشہ نمبر ۱۸) زاویوں کے درمیان کے درختوں کو بغیر کاٹے کام چلنا مشکل نظر آیا۔ حُسن اتفاق سے ان زاویوں کے درمیان جو کھجور کے درخت مائل تھے۔ گھٹیا قسم کے تھے جن کے کاٹے جانے سے کم نقصان تھا۔ دہلی کا تو بیان ہے بنو النضیر اس کھجور کو غذا کے کام میں بھی نہ لاتے تھے۔ وہ صرف عمدہ کھجور 'عجوة' ہی استعمال کرتے تھے اور جنگی ضرورت بھی درپیش تھی۔ چنانچہ وہ کاٹ دیے گئے۔

"ابن عباس نے اس طرح تصریح کی ہے کہ مسلمانوں نے محاصرہ کی ضروریات سے کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ معلوم نہیں اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر رسول اللہ ﷺ سے استفتاء کیا اور اس پر مندرجہ ذیل آیت اتری۔ جاہل نے بھی یہی روایت کی ہے کہ درخت کاٹنے کے بعد لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پوچھتے ہوئے آئے کہ:

یا رسول اللہ هل علينا اثم؟ فیما یا رسول اللہ ہم نے جو کچھ کاٹ دیا یا چھوڑ دیا قَطَعْنَا أَوْ عَلَيْنَا وَزَرُّهُ فِيمَا تَرَكْنَا؟ ہے اس کا کوئی گناہ یا بوجھ تو ہم پر نہیں ہے؟ اس پر مندرجہ آیت اتری۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں یہ ہے کہ غزوة بنی النضیر میں جیسا اس طرح درختوں کو کاٹا جانے لگا تو بنو قریظہ نے آپ کو کہلا بھیجا (غالباً انہوں نے زاویہ 'ش' یا نقشہ نمبر ۱۸) کے درختوں کے کاٹے جانے پر اعتراض کیا ہوگا) کہ اے محمد! تم تو فساد کو منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں۔ پھر یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا یہ اصلاح ہے؟ آپ کے اور مسلمانوں کے متفکر ہونے پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی" (الجهاد فی الاسلام) بہر صورت واقعات کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ درختوں کو کاٹنا محض محاصرہ کی ضرورت

کے تقاضا کی بنا پر تھا۔ البتہ پورے درختوں کو جڑ سے کاٹے بغیر بھی کام چل سکتا تھا جیسا کہ نقشہ نمبر ۱۷۔ (۱۷) 'ع م ف' اور 'ع م ق' زاویوں سے ظاہر ہے قیاس بھی یہی کہتا ہے۔ ان درختوں کے کاٹ دینے کے بعد دونوں طرف مطلع صاف تھا جیسا کہ نقشہ نمبر ۱۷۔ (۱۷) سے نمایاں ہے۔ آنحضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے اس عمل کی طرف سورۃ الحشر میں اشارہ اور تائید اس طرح موجود ہے:

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا تَمَّ لِيْنَةُهَا جِدًّا

قَائِمَةٌ عَلَىٰ أَسْوَابِهَا فَيَادُّنِ اللّٰهَ
 وَيُلْحِزِي النّٰفِثِيْنَ ۝
 (المحشر - ۵) رسوا کرے۔

یہاں قرآن کریم کے چند جامع اور محتاط الفاظ تشریح طلب ہیں جو واقعہ کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کھجور کے درخت کے لیے عموماً 'نخل' کا لفظ آتا ہے جس میں ہر قسم کی کھجور کے درخت آسکتے ہیں۔ 'عجوة' عمدہ قسم کی کھجور کو کہتے ہیں۔ اور 'لینہ' عجوہ کھجور کے علاوہ ہر ایک قسم کے کھجور کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے گھٹیا قسم ہوئی۔ لہذا یہاں پر 'عجوة' کھجور کے درخت تو چھوٹے تک نہیں گئے۔ جو بھی کاٹے گئے وہ 'لینہ' قسم کے تھے۔ پھر یہ کہ ان گھٹیا درختوں کے محض اوپری حصہ کو کاٹنا گیا۔ تنے جڑوں پر قائم رہ گئے یا اگر پورے کاٹے گئے ہوں گے تو کم ہی تعداد میں۔ 'لِيُحْزِي النّٰفِثِيْنَ' کے الفاظ سے درختوں کے کاٹے جانے کا جواز بھی نکل آتا ہے۔ کہ بنو النضیر فاسق تھے اور اللہ کی مرضی بھی تھی کہ وہ رسوا ہوں اور ان کو رسوا کرنے کے سلسلہ میں ضرورتاً ان کے درخت کاٹے گئے۔

کٹ جانے کے بعد کٹے ہوئے درختوں کو بھی بیکار ضائع نہ کیا گیا ان سے مختلف کام یا گیا فرش کے طور پر پچھانے، کھانے پینے اور سامان وغیرہ رکھنے کے لیے پتیوں سے چٹائیاں بنالی گئی۔ جنگ بدر میں تو ایک صحابہؓ کو ایک شاخ دے کر کامیابی کے ساتھ رسول کریمؐ نے تلوار کا کام لے لیا تھا۔ یہاں شاخوں سے تیر و کمان بھی بنایا گیا ہوگا۔ ریشہ سے گوچن کے لیے رستی اور پاک بھی بنالیے گئے ہوں گے کہ کسی وقت خود بھی پتھر اوڑھ کر سکیں۔ کٹے ہوئے درختوں کے ان تنوں سے جو جڑوں پر قائم تھے اور قلعہ کے زیادہ نزدیک پڑتے تھے (دیکھیے نقشہ نمبر ۲ - ۲) مسلم تیر اندازوں نے کمین گاہوں کا کام لے لیا ہوگا۔ جس طرح یہودی "مِنْ وَدَاۓ جُدُودٍ" (دھس کے پیچھے سے) لڑنے کے عادی تھے ویسے یہاں تیر انداز و سنگ انداز "مِنْ وَدَاۓ جُدُودٍ" (دھس کے پیچھے سے) تیر اندازی و سنگ اندازی باطمینان کر سکتے تھے۔ یہ اور اسی قسم کا سارا انتظام اس لیے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ بنو قریظہ اور عبداللہ بن ابی کی طرف سے بنو النضیر کو مدد پہنچنے کی خبر اور اندیشہ بھی تھا!

بنو النضیر کا جھشہ | اپنی پوری قوت کے علاوہ بنو النضیر کو عبداللہ بن ابی کے وعدہ پر پورا

اعتماد تھا اور اس کے ذریعہ سے بنو قریظہ کی طرف سے بھی کچھ توقعات تھیں۔ چنانچہ اسی بھر دوسرے پہلے ہفتہ خوب جوش و خروش اور اطمینان کے ساتھ قلعہ بند رہے۔ مگر بنو قریظہ کو اپنے معاہدہ کی تجدید کا لحاظ تھا اور ان پر کڑی نگرانی بھی رکھی گئی تھی کہ کسی طرف سے کمک نہ پہنچا سکیں۔ چنانچہ یہ بنو النضیر کو کسی طرح کی مدد نہ دے سکے، بارہ گیا عبد اللہ بن ابی اور اس کا دو ہزار آدمیوں سے مدد پہنچانا تو یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ کیونکہ یہ تو تھا منافق۔ نہ کھل کر مدد کر سکتا تھا نہ چھپ کر کرنے کی ہمت تھی۔ اس لیے کہ سارے راستے تو مسدود کر دیے گئے تھے۔ دوسرے ہفتہ میں جب کسی طرف سے مدد نہ آئی تو یہ یہود ڈھیلے پڑنے لگے۔ عموماً کھانے پینے کا سارا انتظام شہر ہی سے ہوتا تھا۔ راشن بھی کب تک چلتا؟ رسد آنے کے سارے وسائل و ذرائع منقطع تھے۔ کمزوری آتی لازمی تھی۔ رات بھر چوکتا رہتے رہتے نیند بھی حرام ہو گئی۔ جبکہ مسلمان کی ٹولی باری باری سے آرام کر کے ہر صبح تازہ دم اٹھتی رہی۔

گو ان کے پاس خود اسلحہ و روپیہ پیسہ کافی تھا۔ یہاں تک کہ ان سب کے لیے ایک خصوصی افسر (سلام بن شکم) ہی محافظ خزانہ تھا۔ مگر یہ سارا اسلحہ اور خزانہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کھل کر نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ اب ان میں دو ہفتہ بعد ہمت و سکت ہی باقی رہ گئی تھی۔ یہ ساری وجوہات تھیں جن کے باعث محاصرہ سے تنگ آ کر بنو النضیر نے ۱۵ دن کے بعد ہی خود ہتھیار ڈال دیے! اور جنگ کی نوبت نہ آئی جس کا اشارہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے:

وَمَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ (الحشر: ۶)

اور جو خدا نے اپنے رسول کو مفت میں ان سے
دلوادیا تو تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ
نہیں دوڑائے تھے۔

مسلمانوں نے ان قلعوں کا حال دیکھ لیا جن پر یہودیوں کو اتنا ناز تھا!

ہتھیار ڈال دینے کے بعد انہوں نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ انہیں اپنا ساز و سامان لے کر امن و امان کے ساتھ چلے جانے دیا جائے۔ گو رسول اللہؐ انہیں زیر کر چکے تھے مگر آپؐ نے بنو النضیر کا کوئی سامان لوٹا نہیں۔ آپؐ نے ان کو اجازت دے دی کہ جس قدر

مال و اسباب اذیتوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ مگر مدینہ سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ چھ سو اذیتوں پر اسباب لادا۔ مکانوں کے دروازے، چوکھٹ اور تختے تک لاد لیے۔ ان کی جلا وطنی کے آخری نظارہ پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ الحشر میں قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں:

مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ
فَانِعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَأَنهَمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِجُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاؤُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

تم کو گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکلیں گے اور وہ بھی اس
گمان میں تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا سے بچالیں گے
تو جدھر سے ان کو گمان بھی نہ تھا خدا نے ان کو آیا۔
اور ان کے دلوں میں دھاک ڈال دی کر کے اپنے
گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں خالی
کرنے اور اجاڑ کرنے۔ پس اے لوگو! جن کی آنکھیں
ہیں عبرت پکڑو! — یہ سب اس لیے ہوا کہ
انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت
کی اور جو خدا کی مخالفت کرے تو خدا کی مار

سخت ہے!

(الحشر: ۲-۴)

قصر کعب بن الاشرف کے کنویں اور حوض کے آثار آج تک دیار بنی النقییر کے ٹیلہ پر باقی
ہیں اور دیواریں بھی ۳/۴ فیٹ اونچی اب تک کھڑی ہیں جن کے کھنڈرات سے مجموعی طور پر
کعب بن الاشرف کے قلعہ کا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ سارا خزانہ بھی اثاثہ کی شکل میں تبدیل کر کے
اذیتوں پر لاد دیا ہوگا۔ دو ڈھائی ہزار کی آبادی تھی۔ چھ سو اذیتوں پر سامان لاد کر گاتے بجاتے
اس طرح خوش خوش نکلے (خوش اس لیے رہے ہوں گے کہ ان کو سارا سامان لے جانے کی اجازت
دے دی گئی۔ خصوصاً اس شکل میں وہ اپنا خزانہ پوری حفاظت میں لے کر جا رہے تھے) کہ دیکھنے
والوں کو جشن کا دھوکا ہوتا تھا۔ بلکہ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس سر و سامان کی سواری کبھی ان کی
نظر سے نہیں گزری تھی۔ (طبری) صرف وہی سامان پیچھے چھوڑا جسے وہ نہ لے جا سکے۔

ہتھیاروں کا جو ذخیرہ انہوں نے چھوڑا اس میں پچاس زرہیں، پچاس خود اور ۳۴ تلواریں
تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بے کار (REJECTED) اور گھٹیا قسم کے فرسودہ ہتھیار ہی رہے ہونگے۔

البتہ بنو النضیر کے چھوڑے ہوئے باغ جو آباد کاری کے بعد مستحقین میں تقسیم ہوئے عمدہ رہے ہونگے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ”آنحضرتؐ ۲ بنی النضیر کی کھجوریں بیچ کر اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا سامان جمع کر لیتے تھے“ ان میں سے تھوڑے لوگ تو شام کی طرف چلے گئے مگر اکثریت خیبر کی طرف گئی (مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً اسی میل دور) جن میں معزز رو سائلا سلام بن ابی الحقیق، کناثہ بن الرزیع اور حنی بن اخطب بھی شامل تھے خیال کرنے کی بات ہے کہ جب جلاوطن ہو کر حنی بن اخطب خیبر جا رہا تھا تو اس نے معاہدہ کیا کہ آنحضرتؐ کی مخالفت پر کسی کو مدد نہ دے گا۔ اور اس معاہدہ پر خدا کو ضامن کیا! بنو النضیر کے قلعے خالی ہو گئے۔ بڑے بول کا سر نہ بچا ہوا۔ ان کی عداوت بے نقاب ہو گئی۔ سرکش یہودیوں کی رسوائی ہوئی اور ان کا سر کچلا گیا۔


یہود بنو النضیر کے نکل جانے کے بعد سے ہی قریشِ حُسنہ کا رواج مدینہ میں جاری ہو گیا۔ سو دھاروں اور سرمایہ داروں کی بوٹ کھسوٹ سے نجات پا کر لوگ خوشحال ہو گئے! جس طرح بیعتِ عقبہ کی یادگار میں مسجد عقبہ تعمیر ہوئی، بدر کے میدان میں عریش کی یادگار میں مسجد عریش بنی، گھوڑ دوڑ میں سبقت کے نتائج دیکھنے کے مقام پر مسجد السبق تعمیر ہوئی اسی طرح آج تک اس واقعہ کی یادگار میں مسجد شمس، دشمس، بمعنی عداوتِ ظاہر ہونا۔ اور چھپانے پر قادر نہ ہونا، یا مسجد الفضح، یا مسجد الفضح، (الضح، بمعنی کھوکھلی چیز کو توڑنا۔ کچلنا) موجود ہے جس سے ان سارے واقعات کی روشنی میں آنحضرتؐ کے اس تاریخی کیمپ کی تعیین ہوتی ہے۔ (دیکھیے نقشہ نمبر ۱ ح)

نقشہ نمبر ۱۱۔ (۱) کس طرح کھجور کے درخت دونوں عملاًں کو آٹا کر رہے ہیں



کیسے رسول اللہ

نقشہ نمبر ۱۲۔ (۲) درختوں کے گنے کے بعد کس طرح نشا نہ صاف نظر آئے گا



کیسے رسول اللہ

بدر الصغریٰ کی مہم

ذیقعدہ ۳ھ

مہم کے اسباب | میدانِ اُحد سے پلٹنے وقت ابوسفیانؓ اور آپؐ کے اصحابؓ کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا اور قسمت آزمائی

ہوگی۔ اس چیلنج اور اس دعوتِ جنگ کو منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ اس لیے اگر اب نہ جایا جاتا تو یہ وقار کے خلاف بات ہوتی اور پھر آئندہ بھی اس وقار کو ضرر پہنچتا!

اُس سال (۳ھ میں) مکہ میں فحط تھا۔ لہذا پہلو بچانے کے لیے ابوسفیان نے الٹی تہذیب کی کہ ایک جاسوس کو مدینہ کی طرف روانہ کیا جس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جس میں بنو قریظہ کے یہود اور منافقین بھی مدد دیتے رہے) کہ اس سال تو قریش نے بڑی زبردستی تیار کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا۔ ان حالات میں اگر نہ جایا جاتا تو اس کے معنی اندرونِ مدینہ اور مصافحات میں یہود و منافقین اور دیگر قبائل یہ تصور کرتے کہ محمدؐ اور ان کے اصحابؓ ڈر گئے اور مقابلہ کی جرأت نہ کر سکے۔ اس طرح قائم شدہ وقار پر اور بھی ٹھیس آ رہی تھی!

واقعات | ابوسفیان کی خرابی چال (پروپیگنڈا) نے جب منشاء یہ اثر ڈالا کہ جب آنحضرتؐ نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب

نہ ملا۔ معلوم ہوتا ہے لوگ نبیہ النضیر کی جلا وطنی کے مظاہرے سے مرعوب تھے۔ جیسا کہ خود اہلِ مدینہ کا بیان ہے کہ اس سر و سامان کی سواری کبھی ان کی نظر سے نہیں گزری تھی اور جب

ابوسفیان کا پروپیگنڈا شروع ہوا تو انہوں نے یہ قیاس کیا ہوگا کہ ضرور بنو النقیض اپنا بدلہ لینے کے لیے قریش کے ساتھ ساتھ بدر میں پہنچیں گے! حالانکہ بنو النقیض خیر جا کر اپنی آباد کاری میں مصروف ہو گئے انہیں اتنی فرصت کہاں تھی کہ بدر جاسکتے) آخر کار آنحضرتؐ نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر ستر سچے مومن اور فدا کار تیار ہو گئے اور آپؐ ان ہی کو لے کر ٹھیک وقت پر بدر تشریف لے گئے۔

مکہ سے بدر کی طرف اونٹوں کی ۳ دن کی مسافت کی حد تک محمدؐ کے رازدار بنو خزاعہ پہلے ہوئے تھے۔ یہ ابوسفیان کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ بدر میں پہنچ کر آنحضرتؐ بھی خبروں کے منتظر رہے۔ ہوا یہ کہ جنگ کے وعدے کا وقت قریب آیا۔ ابوسفیان کی ہمت تو جواب دے رہی تھی (کچھ بدر کی پہلی جنگ اور اُحد و ضمیمہ اُحد کا رُعب بھی طاری رہا) مگر چونکہ پروپیگنڈا مدینہ میں کرا چکا تھا سو چاکم از کم ایک مظاہرہ ہی کیوں نہ کر دوں، لہذا دو ہزار کی جمعیت لے کر مکہ سے نکل پڑا اور دو روز کی مسافت ہی تک (عسفان میں) جا کر ٹھہر گیا (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) وہاں اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال قحط وغیرہ کی وجہ سے لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اس لیے سب کے سب مکہ واپس چلے گئے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بدر میں سالانہ میلہ لگتا تھا اس طرح گویا اس سال مکہ والے نہ تو میلہ ہی میں شریک ہو سکے نہ تجارت سے نفع اٹھا سکے۔

قریش کے انتظار میں آنحضرتؐ کو آٹھ روز بدر میں قیام کرنا پڑا۔ اور اس اتنا ہی میلہ کی تجارت سے خوب نفع اٹھانے کا موقع ملا۔ اس سال زیادہ نفع اس لیے ہوا کہ مکہ کے تجارت (جن کی کثیر تعداد تھی) نہ پاسے اور جو مال شمالی راہ سے شام کے تجارتی قافلے لائے وہ سستے داموں مل گیا۔ دوسری طرف جو تھوڑا بہت مال محمدؐ اور ان کے اصحاب نے تجارت ہی کی غرض سے ہمراہ لے کر گئے تھے اچھے داموں فروخت ہوا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ اتنے میں خیرائی (غالباً بنو خزاعہ کے ذریعہ) کہ کفار مکہ واپس چلے گئے۔ اطمینان ہو گیا تو آنحضرتؐ اپنی جمعیت لے کر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔

اثرات و نتائج | (۱) جب ابوسفیان نے سنا کہ محمدؐ مع اپنے اصحاب نے ٹھیک وعدے

کے وقت بدر پہنچ کر مقابلہ کے لیے موجود تھے تو وہ خود ہی دل میں نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ محمدؐ کے پختہ عزم سے بھی مرعوب ہو گیا۔

(۲) بدر کے سالانہ میلہ میں اطراف کے تمام قبائل جمع ہوتے تھے۔ تجارتی قافلے دور دور سے آتے تھے۔ خصوصاً شام و مصر کی سرحد تک کے اس بڑے اجتماع میں یہ خبر ضرور اڑی ہوگی کہ مدینہ میں قریش کی تیاری کی زبردست تشہیر ہوئی تھی اور پھر اپنی آنکھوں سے جب سبھوں نے دیکھ لیا کہ ابوسفیان اپنا لشکر جرار لے کر نہ پہنچا اور محمدؐ اپنے اصحابؓ کے ساتھ موجود تھے تو سبھوں کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی کمزور ہیں برخلاف اس کے محمدؐ اور ان کے ساتھی مضبوط اور عزم کے پختے ہیں۔ اس بات کی تائید پچھلے واقعات سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آنحضرتؐ اس موقع پر کمزوری دکھا جاتے اور پیچھے رہ گئے ہوتے تو یہ کام جو ایک ہفتہ میں یہاں آنے سے ہو گیا وہ مدینہ سے شاید سالوں میں بھی نہ ہو پاتا۔

(۳) شمالی راہ سے آنے والے کاروانوں اور قبائل نے جا جا کر ان باتوں کو پھیلا دیا جس کا اثر محمدؐ اور آپؐ کے اصحابؓ کے لیے سود مند ہوا۔ چنانچہ دو مہینہ بعد ہی سے جب شمالی کاروانی جاکش کی طرف ابوسفیان کی طرح جھوٹے ہی پروپگنڈے کی نقل کی جاتی جس میں جلا وطن بنو النضیر، یہود کا بھی ہاتھ رہا ہوگا، تو محمدؐ اور آپؐ کے اصحابؓ کی خبر پاتے ہی صرف منظر ہرہ ہی دیکھ کر سب مرعوب ہو جاتے!

(۴) سلامتی کے ساتھ واپس ہونے پر مدینہ کے یقین لوگوں کے سامنے (جو اس ہم پر جانے سے قاصر رہے) شرفِ فدا کاروں کی اطاعتِ امر کا اچھا نمونہ پیش ہوا کیونکہ کامیابی یا ناکامی کو نظر انداز کر کے صرف رضا، الہی و طاعتِ امر پر یہ فدا کار نکل پڑے تھے!

اس ہم کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ موجود ہے۔

اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے مقابلہ	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
کے لیے بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو۔	إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
تو یس کران کا ایمان اور بڑھ گیا اور	فَاخْتَوَاهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ	وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلِبُوا إِنِّعْمَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْكُمْ
 سُوءٌ وَلَا تَأْتِبُوكُمُ الرَّضْوَانُ ۝
 وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔
 آخر کار وہ اللہ کی عنایت سے اس طرح
 پلٹ آئے کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا
 اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں
 حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا افضل فرمانے
 والا ہے۔

د آل عمران: ۱۴۳، ۱۴۴

غزوة مریض یابی مصطلق

(۲ شعبان ۳ھ)

غزوة کا سبب | مدینہ سے یہودیوں کی جلا وطنی کے بعد سے قریش اور یہود کی متفقہ سازشوں کا آغاز ہوا۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل کو ابھارنا شروع کیا۔ مدینہ پر ہر طرف سے حملہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لیکن جب آنحضرتؐ کو کسی سازش و تیاری کی خبر ملتی تو فوراً آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے خواہ پورا سامان ہوتا یا نہ ہوتا۔ چنانچہ ۱۰ ار محرم ۳ھ کو آپ ذات الرقاع کی ہم پر مدینہ سے چار سو صحابہؓ نکلے اور مدینہ سے شمال کی طرف بنو غطفان کی سرحد تک تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ رضی روایت کرتے ہیں کہ ”ہم نبیؐ کے ہمراہ لڑائی میں نکلا جبکہ ہم چھ چھ آدمیوں کو صرف ایک ایک اونٹ ملا ہوا تھا۔ ہم آگے پیچھے (نوبت بہ نوبت) اس پر سوار ہو لیتے تھے۔ اور ہمارے قدم چھلنی ہو گئے تھے اور میرے تو دونوں پاؤں میں چھید پڑ گئے تھے بلکہ ناخن بھی گر پڑے اور ہم اپنے پیروں پر ڈھجیاں (رقاع) — جس سے رقبہ کی) باندھ لیے تھے۔ اسی وجہ سے اُس لڑائی کا نام ذات الرقاع رکھا گیا“ لیکن کئی قبیلے فقط بیعت سے منہ پھرتے ہو کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔

پھر ربیع الاول ۳ھ میں یہ خبر آئی کہ دو مہاجرین نجد میں دشمال کا کاروان جنگش — تبوک سے شمال مشرق کی جانب) کفار کی ایک عظیم لشکر جمع ہو رہی ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ بدر الصغریٰ کی واپسی کے بعد سے مدینہ کے مومنین کی بہت پھر بندھنے لگی تھی چنانچہ اس بار آنحضرتؐ ایک ہزار کی جمعیت لے کر مدینہ سے نکلا تو ان کو خیر ہو گئی اور وہ بھاگ گئے۔

آنحضرتؐ بھی واپس تشریف لے آئے۔

اسی قسم کی خبر ہر مریسح کی ہم بھی پیش آئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بدر اور مکہ کے درمیان ساحلی علاقہ میں بنو خزاعہ رہتے تھے اور اب تک اسلام نہ لائے تھے مگر درپردہ اسلام کے حلیف اور رازدار تھے۔ بلکہ حمزہؓ والا سد کے سلسلہ میں عقبہ خزاعی کا جاسوسانہ رول بھی اچھی طرح دیکھا جا چکا ہے۔ یہ قبیلہ ظاہر طور پر قریش کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ اسی قبیلہ کا ایک خاندان بنو مصطلق مریسح میں آباد تھا جو مکہ سے ۳ منزل پر تھا اور مدینہ سے ۹ منزل پر دیکھے نقشہ نمبر ۱۱)۔ غالباً قریش کے اشارے پر اسی خاندان کے رئیس حارث بن ابی مرار نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کی۔ آنحضرتؐ نے یہ سن کر کہ حارث نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے جمعیت فراہم کی ہے (جبکہ بنو خزاعہ پوشیدہ طور پر آپؐ کے حلیف و رازدار تھے) مزید تحقیق کے لیے ایک صحابیؓ کو بھیجا اور انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔

اس پر آنحضرتؐ نے صحابہؓ کو تیاری کا حکم دیا۔ ۱۲ شعبان ۵ھ کو فوجیں لے کر آنحضرتؐ

واقعات

مدینہ سے روانہ ہوئے مریسح میں خبر پہنچی تو حارث بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اس کی فوج بھی منتشر ہو گئی۔ لیکن آنحضرتؐ کی فوج پہنچنے پر مریسح کے باشندے صف آراء ہو کر مقابلے میں آئے اور دیر تک جھم کر تیر برساتے رہے۔ لیکن ایسے موقع پر آنحضرتؐ نے دفعۃً ایک ساتھ اپنی صفوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس ترکیب سے مریسح کے لڑنے والوں کے پاؤں اکٹھے گئے دس مارے گئے۔ تقریباً چھ سو افراد گرفتار ہوئے۔ غنیمت میں ۲ ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرتؐ نے بنو مصطلق پر جس وقت حملہ کیا تھا وہ بالکل بے خبر اور غافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ جانور اکٹھا لگے اور انہیں گھیر لیا گیا اسی لیے غنیمت میں جانوروں کی تعداد اتنی کثیر ہے!

چونکہ یہ واقعہ مقام مریسح پر ہوا اس لیے اسے 'غزوہ مریسح' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چونکہ خاندان بنو مصطلق کے رئیس نے حملہ کی تیاری شروع کی تھی جس پر یہ واقعہ پیش آیا اس لیے اسے 'غزوہ بنی مصطلق' بھی کہا جاتا ہے۔

قابل ذکر دو واقعات | حالانکہ یہ ایک محو، غزوہ تھا مگر دو مخصوص واقعات

کی بنا پر اسے تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی۔

(۱) ایک یہ کہ لڑائی میں جو کفار ہوئے ان میں جویر یہ بھی تھیں جو رئیس حارث بن ابی
سراہ کی بیٹی تھیں۔ جویرہ جو اس پر رہ آئی کہ خدمت میں رہنا پسند کرتی ہیں آنحضرت
نے ان سے شادی کر لی۔ آپ نے نکاح کر لیا تھا یہ ان جنگ رہا کر دیے گئے کیونکہ فوج نے
یہاں جس خاندان میں وہ اللہ نے شادی کر لی وہ علام نہیر ہو گئی۔

(۲) دو ذرا حد افک (کذب) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ ہے جو اسی ہم سے
ان کے وقت پیش آیا تھا کہ حضرت عائشہ نے کسی حاجت کے لیے لگئی ہوئی تھیں اور کعبہ کا حکم
ہو گیا اور یہ جیب لوٹیں تو دیکھا کہ آپ کے گلے کا ہار غائب ہے۔ لہذا تلاش کرنے کے لیے اس
جگہ گئیں۔ اتنے میں جبکہ اندھیرا ہی تھا شتر بان نے سمجھا کہ وہ ہودے پر بیٹھ چکی ہیں، اونٹ
لے کر روانہ ہو گیا۔ جب وہ پلٹ کر آئیں تو دیکھا کہ اونٹ اور آدمی سب جا چکے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ
تھیں اور ٹھیکہ آگئی۔ صبح سفوان نے ہاں سے گزرے اور پہچان گئے۔ اونٹ روک دیا۔ حضرت
عائشہ چڑھ گئیں یہ نکیل پکڑے ہوئے چلے۔ اس طرح ان کے یہ واقعہ مدینہ لوٹیں۔

اس حادثہ سے فائدہ اٹھا کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ کے خلاف
پہان تراشنا شروع کر دیا اس جھوٹی ویہودہ خبر سے بعض مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ اسی
واقو کی نسبت قرآن کریم میں مذکور ہے:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا
عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسِبُونَ
تِلْكَ حَبَابًا وَهُمْ خَيْرٌ تِلْكَ
مِّنْ حَبَابٍ ۚ

جن لوگوں نے کذب کھا لیا وہ تمہارے ہی
اند کا ایک گروہ ہے۔ اس کذب کو اپنے
حق میں سزا نہ سمجھو۔ بلکہ یہ تمہارے حق میں

(النور: ۱۱) بہتر ہوا۔

غزوة احزاب یا جنگ خندق

(شوال و ذیقعدہ ۶۱۰ھ)

سبب جنگ یثرب (مدینہ کا قدیم نام) میں بہت قدیم زمانہ سے یہودیوں کے آباد ہونے کا سراغ ملتا ہے جن کی نسلیں پھیل کر مدینہ کے اطراف و قریب ہوئیں انہی میں سے تین قبیلے بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مضبوط قلعے بنا لیے تھے۔ ان کی نسب کے متعلق مورخ یعقوبی، مسعودی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو النضیر اور بنو قریظہ جذام قبیلہ کے خاندان تھے جو یہودی ہو گئے تھے۔ سری روایت آئینہ عرب، میں یہ ملتی ہے کہ موسیٰ نے جس لشکر کو عمالقہ کے مقابلہ میں بھیجا تھا انہوں نے تمام عمالقہ کو تو ختم کر دیا تھا مگر ان کے شاہزادے کو زندہ چھوڑ دیا تھا اس نافرمانی پر اپنی قوم ہی نے جب اس لشکر کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیا تو یہ منتقل ہو کر یثرب میں آباد ہو گئے۔ کچھ یہودی دوسری صدی عیسوی میں شام و فلسطین سے ہٹ کر قلب حجاز میں موافق فضا پا کر بس گئے۔

یثرب کے اوس و خزرج (جنہیں محمدؐ کی اعانت کی بنا پر انصار کا لقب ملا) دراصل یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے (دیکھیے نقشہ نبرد خ) یمن کا مشہور پشتہ مارپ (سبا) جب عذاب الہی کی شکل میں پہلی یا دوسری صدی عیسوی میں یا ۳۲۶ء سے ۳۶۵ء تک کے عرصہ میں (مطابق تاریخ اقوام عالم حصہ اول) ٹوٹ گیا تو عرب کے

بہت سے قبیلے منتشر ہو گئے۔ چنانچہ دو بھائی اوس اور خزرج بھی یمن سے نکل کر یثرب میں ہوئے۔ انصار ان ہی دو کے خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان جس وقت یثرب میں آیا تو یہ دولت و تجارت میں ایک نمایاں اقتدار و اثر رکھتے تھے۔ کچھ زمانہ تک تو اوس و خزرج لوگ اُن سے الگ تھلگ رہے۔ پھر اُن سے تعلقات پیدا کر کے رفتہ رفتہ حریفانہ اقتدار حاصل کر لیا۔

ایک مدت تک اوس اور خزرج باہم متحد رہے۔ پھر خانہ جنگیاں ہونے لگیں۔ اور ہمیشہ اوس اور خزرج کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ عرب قبائل کے کو پیسہ کے ذریعہ خرید لیتے تھے۔ سب سے اخیر لڑائی 'بُعَاث' نے تو اوس اور خزرج کی پوری قوم کوڑی اور اب وہ اس قابل نہ رہ گئے تھے کہ یہود سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔ یہودیوں کی ہمسریا کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ملکی اور تجارتی برتری کے علاوہ یہودیوں کے پاس مذہبی روائے اور علم و فضل کا اثر بھی تھا۔ جنہوں نے یثرب میں 'بیت المدارس' قائم کیے تھے وہاں توراہ کی پڑھائی ہوتی تھی۔ اوس اور خزرج کے کسان و مزدور عموماً بت پرست اور جاہل تھے اسی بنا پر وہ یثرب کو عورت کی نگاہ سے دیکھتے اور اپنے سے زیادہ مہذب اور فاضل سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے وہ منت مانتے تھے کہ ہمارا بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اسے یہاں بنا دیں گے۔ چنانچہ اس قسم کے بھی جدید یہودی یثرب میں تھے۔

یہودیوں کو مدتوں سے یثرب میں جو وقار حاصل تھا آنحضرتؐ کے پہنچنے ہی اس پر ٹھنک لگنے لگی۔ قرآن کریم کی آیات کے نزول کے ذریعہ اُن کے اخلاقِ ذمیرہ اور افعالِ قبیحہ کا پرکاش ہونے لگا تو وہ اسلام سے ناراض ہو گئے اور آنحضرتؐ کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگے۔ بدولت بالآخر اُن کی جلا وطنی کی نوبت آئی۔

رسولِ کریمؐ سے دشمنی کے اسباب تفصیل سے بتائے جا چکے ہیں۔ اسلام اور رسالت کے مخالفین میں ۳ بڑے عناصر تھے۔ قریش، یہود اور منافقین۔ قریش تو کھل کر سامنے آئے تھے یہود و منافقین خفیہ طور پر اُن کے حلیف تھے یہاں تک کہ یہود کے ۳ خانہ انوں سے دو (بنو قینقاع اور بنو النضیر) نے جب معاہدوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے کھل کر اعلان

کر دیا اور اپنی دشمنی کو چھپانے کے تو شکست کے بعد مدینہ سے جلا وطنی پر مجبور کر دیے گئے۔ ان کا ایک خاندان بنو قریظہ رہ گیا تھا جو منافقین کے ساتھ درپردہ اسلام کی مخالفت کر سکتا تھا اس امکان کو رسول کریمؐ اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔

جلا وطنی کے بعد بنو قینقاع (تقریباً ۱۰۰۰ افراد پر مشتمل) اور بنو النضیر (تقریباً ۲۰۰۰ افراد پر مشتمل) مدینہ کے شمال میں شام و خیبر کے علاقوں میں آباد ہو گئے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱)۔ مدینہ سے دور یہ ۳ ہزار سے زائد افراد کی مجموعی آبادی اسلام کے خلاف کھل کر آواز اٹھانے کے لیے کافی تھی۔ حالانکہ بنو النضیر کی جلا وطنی کے وقت ان کے رئیس حنی بن اخطب نے آنحضرتؐ سے معاہدہ کرتے ہوئے خدا کو ضامن ٹھہرا کر کہا تھا کہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اس طرح مخالفت کے قدیم مرکز مکہ کے علاوہ جو مدینہ سے جنوب میں تھا جہاں کفار قریش سرگرم عمل تھے، اب شمال میں بھی ایک نئے مرکز کا آغاز ہوا جس کے روح رواں یہی جلا وطن یہود تھے۔

یہودیوں کی جلا وطنی تازہ مشکلات باعث بنی۔ جلا وطن یہود اپنے پورے سامان کے ساتھ آزادی پا کر بھلا کیسے چین سے بیٹھ سکتے تھے؟ یہ یہود ایسے خطوں میں آباد ہوئے تھے جو شمالی کاروانی راستوں سے ملحق تھے۔ اس طرح یہ شام و عراق کے قبیلوں، بازاروں اور میلوں تک خود بھی باسانی پہنچ سکتے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) اور مختلف قبیلوں کی آمد و رفت سے بھی باجبر رہتے چنانچہ آباد کاری کے بعد ہی انہوں نے قول و قرار توڑ کر عظیم پیمانہ پر ایک سازش کا آغاز کیا جس کے لیے ۲۰ سردار بھی مامور کیے کہ وہ عرب کے تمام قبیلوں کو مدینہ پر حملہ کے لیے آملاہ کریں۔ بلکہ مورخ مسعودی نے کتاب الاشراف والبنیہ میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ شمال سے دو مہاجرین سے ہو کر مدینہ آنے والے کاروانوں کو واقعہ چھیڑا جانے لگا۔

بحوالہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب 'عہد نبویؐ کے میدان جنگ'

اس وقت تک قینی جنگیں ہو چکی تھیں وہ سب غزوہ احزاب ہی کی پیش خیمہ تھیں! بدر کے موقع پر ساز و سامان سے آراستہ جمعیت نے قوت آزمائی کی۔ پھر جنگ احد میں تقریباً ۳ ہزار کے لشکر نے چڑھائی کی لیکن جیسے جیسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا دشمن اپنی جتھا بندی میں کوتاہاں ہوتے گئے۔ جہاں اور جب ساری قوتیں اکٹھا نہ ہو سکیں، صرف

چھیڑ چھاڑ پر اکتفا کیا اور جرمِ کرمقابلہ کی جرأت نہ کر سکے۔ جیسا کہ غزوةِ سویق، حراء، الاسد، بئر معونہ، ذات الرقاع، بدر، الصغریٰ، دوامۃ الجندل اور مریسح وغیرہ کے مواقع پر دیکھا گیا۔ لیکن ان کی ان ساری حرکتوں سے کم از کم ہوا کے رخ کا پتہ لگتا گیا اور آنحضرتؐ بھی اپنے ذاتی تجربات اور اپنی حربی تدابیر سے ان کی قوت کا صحیح جائزہ لے کر اقدام کرتے رہے۔

شمال میں (دیکھیے نقشہ نمبر ۱) یہودی سرداروں نے بنو غطفان کو لالچ دیا کہ خیبر کی نصف پیداوار ان کو ہمیشہ دیا کریں گے وہ تیار ہو گئے (بئر معونہ کے وقت سے ہی وہ عام رئیس کے حامی بن کر مخالفت پر تیار تھے بلکہ ذات الرقاع کے مظاہرہ میں بھی ان کا ہاتھ تھا) بنو اسد غطفان کے حلیف تھے غطفان نے ان کو سکھ دیا کہ فوجیں لے کر آئیں، لہذا وہ بھی تیار تھے۔ بنو سعد بھی حلیف ہونے کی حیثیت سے فوراً تیار ہو گئے۔ اسی طرح بنو اشج، بنو مرہ اور بنو فزارہ وغیرہ نے بھی ساتھ دینے میں آمادگی ظاہر کی۔ بنو غطفان کے زیر اثر بنو عیس، بنو ذؤبیان، بنو العشاء، بنو حشاء، بنو شیبیع اور بنو حجاز بھی تھے۔ جو اس اتحاد میں شرکت کے لیے آمادہ تھے۔ جنوب میں پہلے ہی سے کفار قریش کا مخالف مرکز عمل موجود تھا۔ اسلام تو چاہتا تھا کہ انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لائے۔ لیکن قبول دعوت میں قریش کی روایتی غفلت و اقتدار اور اثر کا خاتمہ تھا! اس لیے قریش نے شروع ہی سے شدید مخالفت کی یہی حال سارے قبائل کا تھا۔ دو ایک قبیلوں کو چھوڑ کر عرب کے تقریباً تمام ہی قبائل اسلامی تحریک کے مخالف تھے اور اس تاک میں تھے کہ کس طرح اس کو ختم کر دیا جائے۔

چنانچہ جب بنو النضیر کے یہودیوں نے خیبر میں میٹنگ کر کے حُجی بن اخطب کی قیادت میں ایک وفد (جو یہودی رؤسا سلام بن مسکم، کنانہ بن ابی الحقیق، ہودۃ بن قیس الوائل اور ابو عامر الفاسق پر مشتمل تھا) عرب قبائل کی طرف بھیجا (محمد احمد باشمیل کے مطابق: 'من معارک الاسلام الفاصلة') جس نے مکہ پہنچ کر قریش کو شمال مرکز کی تیاریوں سے باخبر کیا اور تفصیل سے بتایا کہ کن کن قبائل کو انہوں نے ہموار کیا ہے تو انہوں نے ان کے نئے عزائم اور اس تجویز کی پوری تائید کی۔ چنانچہ قریش کے زیر اثر جو قبیلے تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو مصطلق اپنی تازہ شکستِ مریسح کے انتقام کے جوش میں تیار ہوئے اور احابیش (دیکھیے جنگِ احد) تو قریش

کے ساتھ پختہ معاہدہ میں پہلے سے بندھے ہوئے تھے۔ بنو سلیم نے قریش سے قرابت کی بنا پر ساتھ دیا، اور ہوازن نے بھی امداد کا وعدہ کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ قریش کی شکست پر ان کی خود مختار ریاست اور ان کی ممتاز حیثیت کا خاتمہ ہو جائے!

ایک طرف یہودیوں کو اپنے اقتدار، ساز و سامان، آلات جنگ، جنگی مہارت اور مضبوط قلعوں پر ناز تھا، دوسری طرف قریش بھی اپنے اقتدار، ذرائع و وسائل اور بہادر سرداروں کی قوت پر گھمنڈ کرتے تھے لیکن جب بار بار ان دونوں محرموں کے وقار کو دھکا لگا تو دل ہی دل میں تادم و شرمندہ تھے اور کسی موزوں موقع کی تاک میں تھے۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آگئی تھی کہ تنہا قریش محمد کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ان کا مقابلہ ایک دو قبیلے کے بس کا ہے!

اس طرح حلفاء (ALLIES) کا لشکر یہود، غطفان اور قریش پر مشتمل تھا، اور حملہ آوروں میں زیادہ تعداد دیگر بت پرست قوموں ہی کی تھی۔ بظاہر تو یہ غزوہ قریش و غطفانیوں ہی کے ساتھ تھا مگر حرمۃ للعالمین کے مؤلف نے اسے یہودیوں کی جنگ کہا ہے اور توجیہ بھی ٹھیک ہی ہے کہ اصل محرک، اشتعال دلانے والے اور روح رواں تو یہودی ہی تھے! احزاب پر ایک تنوعِ افہامی نظر | ان احزاب کو ۳ حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے

(۱) مدینہ کے شمال سے آنے والے قبیلے حسب ذیل تھے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱، اور 'ق')

بنو اسد ————— طیبو بن خوید الاسدی کے کمان میں
بنو شیبع ————— مسعود بن رخیلہ کے کمان میں
بنو مرہ ————— حارث بن عوف مری کے کمان میں

ورنہ
عیلین بن حصن فزاری کے کمان میں

بنو غطفان
بنو عیس
بنو زویان
بنو العشاء
بنو سعد
بنو حشاء
بنو شیبع
بنو حشاش
بنو فزارہ

یہودان خیبر۔ فدک۔ وادی القرنی و تیماء ————— یحییٰ بن اخطب کے کمان میں

(۲) مدینہ کے جنوب سے آنے والے قبیلے حسب ذیل تھے (دیکھیے نقشہ نمبر ۱، اور 'ق')

بنو ہوازن ————— ماتر بن طفیل کی کمان میں

بنو سلیم ————— سفیان بن عبد الشمس ابوالاعور سلمی کی کمان میں

قریش کے ساتھ بنو کنانہ تھے جن میں اعمیش کے تین اور بقیہ بنو مطلق کے قبیلے تھے۔

بنو نضر بن کنانہ
بنو مالک بن کنانہ
بنو حارث بن مالک

اعمیش کے قبیلے

بنو حارث بن کوئی

بنو عوف بن کوئی

بنو کعب بن کوئی

بنو عدی بن کعب

بنو ہبیس بن کعب

بنو جمح بن کعب

بنو مرثد بن کعب

بنو سہم بن کعب

بنو تميم بن مرہ

بنو کلاب

بنو زہرہ بن کلاب

بنو قصی بن کلاب

بنو مطلق کے قبیلے

بنو کنانہ

ابو سفیان بن حرب اُمویہ کی کمان میں

یہ قریش اور کنانہ کون تھے جو آنحضرتؐ اور ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے جا رہے تھے

اس کی حقیقت ذیل کی ایک روایت سے واضح ہوگی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيُأْتِيَ بِهِمُ الْوَلَدِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ

إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَرَكَزِيدَهُ كَمَا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ

بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ
 قُرَيْشًا وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ
 وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ (صحیح مسلم) میں سے مجھے ممتاز فرمایا۔
 (۳) مدینہ کے مشرقی حراہ پر آباد بنو قریظہ (یہود) بھی تھی بنو اخطب کی شہ پر آنحضرت سے
 عہد توڑ کر احزاب میں شامل ہو گئے۔

قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی (جو اس سے پہلے
 عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی) سلع پہاڑ سے شمال میں جہاں تک نظر کام کرتی رہی ہوگی کفار عرب
 کی فوجوں کے دل ہی دل نظر آتے رہے ہوں گے۔
 میدان جنگ میں احزاب کے اس لشکر گران کا کمانڈر ان چیف ابوسفیان بن المرب
 اموی تھا۔

شکر کی تعداد تصریح کے ساتھ طبقات ابن سعد اور زاد المعاد میں دس ہزار بتائی
 گئی ہے۔ غالباً اس میں بنو قریظہ کی تعداد شامل نہیں ہے جن کی فوجی طاقت بذات خود ڈیڑھ ہزار
 سے زائد تھی۔ تفہیم القرآن میں دس بارہ ہزار تک بتائی گئی ہے۔ شاہنامہ اسلام کے مصنف
 نے دفع اباری کے حوالہ سے ۲۲ ہزار بتائی ہے اور محمد علی لاہوری نے اپنی سیرت کی کتاب
 میں ۱۰ سے ۲۲ ہزار تک بتائی ہے۔

مدینہ آن کی سازش سے بے خبر نہ تھا۔ پہلے کی مہموں
 کے دوران اور دیگر ذرائع سے جب آنحضرت کو پتہ

پل گیا کہ واقعی مدینہ پر بہت جلد متحدہ حملہ کیا جائے والا ہے تو "خلاف معمول آپ آدھے
 راستے سے مدینہ واپس آگئے اور شہر کی مدافعت کا انتظام کرنے لگے"

(ڈاکٹر حمید اللہ صاحب — مہد نبوی کے میدان جنگ)

آپ نے مشورے کے لیے صحابہؓ کی ایک مجلس بلائی کہ مسلمان مدینہ کے باہر جا کر مقابلہ
 کریں گے (جیسے آج میں کیا تھا) یا مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو کر، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:
 "جس خدائے ہماری نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسی خدائے ہم کو مال اندیشی کا بھی حکم دیا ہے۔"

یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم مٹھی بھر مسلمان ٹڈی دل کفار سے کھلے میدان میں لڑیں۔ (آفتاب عالم)

مشورے کے وقت صحابیوں میں حسن اتفاق سے معزز ترین صحابی حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ غزوہ خندق کے وقت ان کی عمر ماشاء اللہ ۲۳ برس کے قریب ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ پختہ اور عملی تجربات بھی ازمنہ وسطیٰ (MIDDLE AGES) کی جنگوں کا رکھتے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ فارس والے ایسی جنگوں کے موقعوں پر شکر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں اور اس سے اچانک حملوں کے اندیشے باقی نہیں رہتے۔ لہذا پیشتر اس سے کوشش کی فوج مدینہ پہنچ جائے جلدی جلدی خندق کھود لی جائے۔

وجہ تسمیہ :- اس جنگ کے دو نام ہیں (۱) 'غزوہ احزاب' اور (۲) 'جنگ خندق' (۱) احزاب کا نام اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور کئی مقامات پر احزاب کے ذکر کے علاوہ اس نام سے ایک مستقل سورہ موجود ہے جس میں اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ 'احزاب' جمع ہے 'حزب' کی۔ جس کے معنی ہیں لوگوں کی جماعت یا پارٹی۔ ہر وہ قوم جس کے خیالات و افکار ایک ہوں۔ اس جنگ کے اسباب میں ایک ہی مشترک فکر و خیال کا فرما تھا کہ اپنے باہلانہ رویہ کو برقرار رکھنے کے لیے اسلامی تحریک کا استیصال کیا جائے۔ چنانچہ اسی ایک عزم اور مقصد کے تحت جلا وطن یہودیوں کے ساتھ تہامر مجازہ شام و نجد کے سارے قبائل (دیکھیے نقشہ نمبر 'خ') متحد ہوئے اور عرب کے چاروں طرف سے ایک بہت ہی بڑی تعداد میں چڑھائی کر کے مدینہ کے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینا چاہا مگر ان کی ناکامی کا ریکارڈ بھی تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ معنی و مفہوم کے اعتبار سے اللہ کا پسندیدہ نام نہایت ہی موزوں ہے!

(۲) دوسرا نام 'خندق' منسوب ہے۔ میدان جنگ کی بس اہم شے نے عرب کے سارے پرجوش مستعد و متحد احزاب کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا وہ دراصل 'خندق' ہی تھی۔ اسی لیے جب اس جنگ کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو احزاب کے تصور کے ساتھ 'خندق' کا نقشہ کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا! یہ دشمنوں کے لیے

کس طرح ایک سوالیہ بن کر آئی تھی اس کا صحیح اندازہ چند قدرتی و تاریخی تجربات کو سامنے رکھ کر بآسانی ہو سکتا ہے۔

● بتوسط طبقہ کے گھرانوں میں نعمت خانہ کو چیونٹیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے اُس کے پایوں کو پانی سے لبریز برتنوں میں جزیرہ بنا کر رکھا جاتا ہے۔ چیونٹیاں کھانے تک نہیں پہنچ سکتیں کیونکہ اُن کے سامنے ایک سوالیہ آجاتا ہے؟

● لکھنؤ کے چڑیاخانہ میں شیروں کی کوٹھریوں سے ملحق کھلی زمین کو گھرتی ہوئی پانی سے لبریز ایک ایک خندق اتنی چوڑی بنائی گئی ہے کہ شیر کی جست میں نہ آسکے۔ اس کے علاوہ دیکھنے والوں کو مطمئن رکھنے کے لیے خندق سے باہر لوبہ کی موٹی سلائخوں سے کافی اونچی دیواریں بھی کھڑی کر دی گئی ہیں۔ شیر اپنی کوٹھری سے نکل کر افتادہ زمین پر چکر مارتا رہتا ہے مگر باہروالوں پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ اُس کے سامنے پانی سے لبریز خندق کا سوالیہ رہتا ہے؟

● آج محکمہ جنگلات کا ایک ادارہ (جس کا کام بجائے کٹوانے کے جنگلات لگانا (AFFORESTATION) ہے وہ اوسرپلاٹ اور عریاں پہاڑیوں کو منتخب کر کے اُن پر پودے لگواتا ہے۔ ان پودوں کی حفاظت کے لیے اس ادارہ نے ایک آسان نسخہ یہ اپنایا ہے کہ پلاٹ یا پہاڑی کے چاروں طرف تقریباً پانچ چھ فیٹ چوڑی اور پانچ فیٹ گہری خندق کھودی جاتی ہے۔ یہ خندق مولیشیوں کے لیے سوالیہ بن کر مائل ہو جاتی ہے اور وہ لگائے ہوئے پودوں پر حملہ نہیں کر پاتے؟

● دشمن سے محفوظ رہنے کا یہ فطری طریقہ تخیل کوئی جدید دماغی پیداوار نہیں بلکہ اس کا سراغ ازمنہ وسطیٰ (MIDDLE AGES) کی جنگوں میں یا اور پہلے سے ملتا ہے؟

● ۶۵۸ تا ۶۵۴ء ق م کی بات ہے کہ بابل شہر کے گرد دو فصیلیں تھیں جن کے چاروں طرف ایک گہری اور چوڑی خندق تھی جس کی وجہ سے کوئی دشمن دیوار تک نہیں پہنچ سکتا تھا؛ خندق کھودنے سے جو مٹی نکلی تھی اُسی سے اینٹیں تیار کر کے شہر پناہ کی موٹی دیوار بنائی گئی تھی جس کی اونچائی ۳ سو فیٹ تھی؟

• آریں اقوام کی بستیوں کی حفاظت کے لیے فیصلوہی کے گرد خندق کھودنے کا رواج تقریباً عالمگیر صورت اختیار کر گیا تھا؛

• لڑائی کے وقت آشوری اپنی فوج کے گرد ایک مٹی کی عارضی دیوار بنالیے تھے اور قبضہ ڈرا، بجد پر (دیواروں کے پیچھے سے) لڑتے تھے؛

• آٹھویں صدی ق م میں جب آشوری بادشاہ سارگن ایشیائے کوچک کی سرحد پار کر کے فلسطین میں پہنچا تو وہاں والوں نے اپنے شہر کے گرد گہری خندق کھود کر پانی سے بھر دی تھی؛

• ۵۲۸ ق م میں یونانیوں کی جنگ (ایتھنز و اسپارٹا کے درمیان) میں دیوار پناہ کے دونوں طرف کھدی ہوئی خندق کا ذکر ملتا ہے؛

• ۵۱۹ ق م میں ایرانی شہنشاہ داریوش دوم (DARIUS II) کی وفات پر جب بابل کا تخت چھیننے کی غرض سے دس ہزار کی ایک بڑی فوج نے حملہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے میدیا کی .. اینٹ اونچی اور .. اینٹ چوڑی دیوار حائل ہوئی۔ پھر شاہی نہر کو پار کرنا تھا۔ ان دو رکاوٹوں کے علاوہ بابل کے پھانک تک پہنچنے کے لیے اسے ایک ایسی .۴ میل طویل خندق کو بھی پار کرنا پڑتا جو مشرق کی طرف میدیا کی دیوار سے ملحق تھی اور شمال مغربی سمت میں دریائے فرات سے ملا دی گئی تھی۔ ان رکاوٹوں (HURDLES) نے ایک طرف تو فوج کے چھلکے چھڑا دیے اور دوسری طرف محصورین کو قوت فراہم کرنے کا موقع مل گیا؛

غرضکہ ازمنہ وسطیٰ کی مندرجہ بالا دفاعی تدابیر سے معزز ترین صحابی سلمان فارسی پوری طرح واقف و باخبر تھے۔ چنانچہ ان کا پختہ مشورہ پوری مشاورتی کونسل کے لیے قابل قبول ہوا۔

میدان جنگ کا دفاعی جائزہ اور پلاننگ (دیکھیے نقشہ نمبر ۱۱،) واقعہ کا بیان ہے کہ خندق کی تجویز نو تختہ ہونے

کے بعد آنحضرتؐ چند انصار و مہاجرین کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور شہر کے اطراف ان مقامات کا معائنہ فرمایا جو جنگ اور محاصرہ میں اہمیت کے حامل تھے۔ اور اس مقام کی تلاش کی جہاں سلمان پڑاؤ ڈال سکیں۔

(ڈاکٹر جمید اللہ صاحب: عہد نبویؐ کے میدان جنگ)

شہر کے جنوب میں کھجور کے درخت اور باغات تھے جن میں سے دشمن فوجوں کا پارہونا دشوار تھا۔ مشرق و مغرب میں لاوے کی پہاڑیاں تھیں جن پر پیدل اور گھوڑوں کا چلنا مشکل تھا۔ اُن قدرتی رکاوٹوں کے علاوہ "مشرق میں بنو قریظہ وغیرہ کے سیکڑوں مکان اور باغ تھے اور فی الوقت اُن سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ادھر سے اطمینان سا تھا۔"
(ڈاکٹر حمید اللہ صاحب: عہد نبوی کے میدان جنگ)

شمال کا رخ ہی سب سے مخدوش تھا اور کسی حد تک مغربی رخ بھی مہودسی نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے:

عَنْ ابْنِ اسْحَاقَ كَانَ اخْدُ جَانِبِي الْمَدِينَةِ حَوْرَةً وَسَائِرُ جَوَانِبِهَا مُشَكَّةٌ بِالْبُنْيَانِ وَالنَّخِيلِ لَا يَتِمُّنَ الْعَدُوُّ مِنْهَا
ابن اسحاق سے روایت ہے کہ شہر مدینہ کا ایک رخ کھلا ہوا تھا اور اس کے باقی رخ عمارتوں اور کھجور کے گھنے باغوں سے گھرے ہوئے تھے جن میں سے دشمن گزر نہیں سکتا تھا۔

(بحوالہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب: عہد نبوی کے میدان جنگ)

اس لیے آنحضرت کی تجویز ہوئی کہ سلع پہاڑ کے شمال میں حترہ شرقی اور حترہ غربی کو ملائی ہوئی ایک خندق کھودی جائے جب اس تجویز کی تائید ہوگئی تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے داغ بیل ڈال دی

داغ بیل ڈالنے کے وقت یہ حکمت عملی کی گئی کہ سلع کے مغرب میں حترہ پر چھوٹے چھوٹے دو ٹیلوں اور شمال میں

فیلڈ آفس یا جنگی دفتر کھل گیا
۲ ٹیلوں کو خندق کی لائن پر رکھ کر ملا یا گیا تھا تاکہ وہاں دفاعی چوکیاں بٹھائی جائیں۔ چنانچہ آنحضرت نے فوراً اپنا مکان چھوڑ کر شمالی دامن کے بیچ والے ٹیلہ پر خیمہ لگایا (جس کی یادگار آج تک مسجد ڈباب موجود ہے) دیکھیے نقشہ نمبر (۱) فیلڈ کے کام کو سنبھالنے کے لیے یہی مرکزی مقام تھا۔ اور وہیں جنگی دفتر کھل گیا اور کھدائی کے سارے ضروری آلات و سامان فراہم کر کے ایک اسٹور کھول دیا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ "بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ یہودیوں سے بھی کھدائی کا سامان ستمار مانگ لیا تھا۔"

سپہ سالارِ اعظم کی یہ مستعدی دیکھ کر ۳ ہزار مسلمانوں نے اپنی رضا کارانہ خدمت پیش کر دی۔
محمد احمد باشمیل نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے کھدائی میں ہاتھ نہیں بٹایا؟ " عام لوگ تو دن بھر
خندق کی کھدائی کرتے اور رات اہل و عیال میں گزارتے مگر آنحضرتؐ اپنے کیمپ ہی میں
دن رات مستعد تھے! " (ابن ہشام) دسوالہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب: عہد نبوی کے میدان جنگ

خندق کی کھدائی عین رمضان میں

اکثر مورخین نے غزوہ احزاب کو شوال کے مہینہ
میں بتایا ہے اور کسی کسی کتاب میں اسے ذیقعدہ

کے مہینہ میں بتایا گیا ہے۔ لیکن مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کھودنے کا کام تقریباً ختم
ہو چکا تھا کہ شوال کے مہینہ میں دشمن مدینہ کی سرحد پر نظر آئے اور پھر بیس پچیس دنوں کا محاصرہ
ہوا اور اسی مہینہ میں میدان صاف ہوتے ہی اسی روز بنو قریظہ کے ساتھ کارروائی شروع کی
گئی۔ چونکہ حقیقتاً جنگ شروع ہونے سے پہلے خندق کی کھدائی میں ۳ ہفتے صرف ہو گئے تھے یعنی
خندق کی کھدائی وسط رمضان میں شروع ہو گئی تھی۔ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہم اس جنگ کو
شوال و ذیقعدہ شہ میں محدود کر سکتے ہیں۔

خندق کی انجینئرنگ ٹیکنیک اور تقسیم کار

خندق کی لمبائی ناپنے پر تقریباً ۳ میل
آئی جو ۴۸۰،۱۸۰ فیٹ کے برابر

ہوتی ہے۔ ۳ ہزار رضا کاروں پر فی کس تقریباً ۶ فیٹ ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا
ہے کہ رسول اللہؐ نے پوری خندق کی لائن کو کھودنے کے لیے دس دس آدمیوں کی ٹکڑی
(GANG) بنا دی تھی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بیان کے مطابق "دس دس آدمیوں
کی ٹکڑی کو چالیس ذراع، بسی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا" اس سے بھی ہر آدمی کو ۴ ذراع
یعنی ۶ فیٹ کی لمبائی پڑے گی کیونکہ ذراع کے معنی ہوتے ہیں کہنی سے لے کر پچ کی انگلی تک کا فاصلہ
جسے پیمائش کی اصطلاح میں 'ہاتھ' (۱ = ۱۶ فیٹ) کہا جاتا ہے۔ محمد احمد باشمیل نے بھی اسی کی
تائید کی ہے اور ۴۰ ہاتھ ہی لکھا ہے۔ "سیرۃ النبیؐ" اور "رحمۃ للعالمین" کے مؤلفوں کے
حساب میں غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ "سیرۃ النبیؐ" میں "ذراع" کے معنی گز (یعنی ۳ فیٹ) سمجھ لیا
گیا۔ اور دس آدمیوں کی ٹکڑی پر دس ہی گز لکھا ہے۔ (بجائے ۴۰ ذراع کے) جو نصف

لمبائی ہوئی۔ جس کا اثر پوری خندق کی لمبائی پر یہ ہوگا کہ ۳ فیٹ کے حساب سے ۳ ہزار آدمیوں پر صرف ۹۰۰۰ فیٹ تک کھدائی ہو سکے گی، دوسری طرف، رحمتہ للعالمین حصہ اول میں "دس دس آدمیوں نے چالیس گز خندق تیار کی تھی" (بجائے ۴۰ ذراع کے) جو نتیجے میں ۳۶۰۰۰ فیٹ کی لمبائی ہو جائے گی جبکہ حقیقتاً خندق کی لمبائی ۴۸۰۰۰ فیٹ تھی؟

جہاں تک چوڑائی اور گہرائی کا معاملہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تو لکھ دیا کہ "گہری اور چوڑی کتنی تھی، اس کا کوئی پتہ مجھے اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن انہوں نے (عہد نبویؐ کے میدان جنگ میں) سلمانؓ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک قوی ہیکل آدمی تھے اور کئی آدمیوں کے مجموعی کام کے برابر خود کرتے تھے، اور واقفی کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: "جَعَلُوا لَكَ خَنْسًا" "آذْبُعُ الطُّولَا وَخَنْسٌ فِي الْأَرْضِ"۔ میرے خیال میں طولا کے بعد فی الأرض ہوگا (نہ کہ فی الارض) یعنی عرض (چوڑائی) میں۔ کیونکہ کھدائی کے لیے ناپ لمبائی اور چوڑائی میں دی گئی ہوگی۔ محمد احمد باشمیل صاحب نے تو لکھا ہے کہ "چوڑائی (عرض) نو (۹) ہاتھ سے کم نہ تھی" یعنی تقریباً ۱۴ فیٹ۔ گہرائی کے متعلق سیرۃ النبیؐ میں ۵ گز لکھا ہے اس طرح ہر بیان کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر خندق کی کھدائی کا تخمینہ کیا جائے تو حسب ذیل مناسب ہوگا:-

لمبائی ۵۰، ۱۸، ۱۵، ۸ فیٹ x چوڑائی ۱۵، ۸ فیٹ x گہرائی ۸ فیٹ = ۲۲،۲۰۰ مکعب فیٹ
 جسے ۲۰ دنوں میں ۳ ہزار آدمیوں نے مل کر کھودی۔ اس لیے ایک آدمی کے حصہ میں ۷۴۰ مکعب فیٹ اوسطاً آئی اس طرح ایک دن میں ایک آدمی نے گویا، ۳ مکعب فیٹ مٹی کھودی معمولی مٹی کے ساتھ پتھر، بل جگہوں کی کھدائی تو دشوار رہی ہوگی اور کھدائی بھی کم ہوتی رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ مٹی کو خندق سے نکال کر اوپر پھینکنا پڑتا تھا۔ اور پتھروں کے ساتھ دیوار کی شکل میں چٹائی بھی کی جاتی رہی ہوگی، آفتاب عالم میں صراحت کے ساتھ درج ہے کہ "جو مٹی نکلتی تھی اس سے پشتہ باندھ دیا جاتا تھا اور ایک کچی سی فیصل قائم ہوگئی تھی" معلوم ہوتا ہے کہ "خندق کی کھدائی سے جو پتھر اور مٹی نکلی تھی وہ مدینہ ہی کی جانب پھینکی گئی۔ اس طرح مٹی کے تودوں اور پتھروں کی آڑ سے سلمان تیر انداز مسلسل تیر چلاتے تھے" (تاریخ العراق)

خندق سے نکلی ہوئی مٹی سے زمین کی سطح اونچی ہوگئی ہوگی جس سے صرف ۱۰ فیٹ سے دگنی گہرائی نظر آنے لگی ہوگی۔ اسی طرح ۱۵ فیٹ چوڑائی کے بعد ہی مٹی پتھر کی عارضی دیوار بھی نظر آتی رہی ہوگی جو گھوڑ سواروں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی!

محمد احمد باشمیل کے مطابق بنو قریظہ نے خندق کھودنے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ یہ بات معاہدہ کے خلاف تھی؟

رضا کار کھدائی میں مگن | جاٹے کا موسم اور دن چھوٹا۔ لیکن اہم دفاعی کام کا بوجھ سر پر۔ سلج پہاڑ کے مغرب کی طرف خندق حرہ واہر سے

شروع کی گئی اور دونوں ٹیلوں کو کمان کی شکل میں ملاتی ہوئی سیدھی ہو کر تینوں ٹیلوں کو ملا کر مشرقی حرہ کی طرف چلی اور پھر لائن ٹیڑھی کر کے خندق اطام الشیخین سے ملا دی گئی۔ اسی طرح ۱۳ میل لمبی کھدائی پر ۳ ہزار رضا کار جانناز مجاہد پھیلے ہوئے تھے۔ مٹی کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ مغرب و مشرق کے حرروں پر پتھر ملی تھی۔ بیچ کی مٹی کچھ نرم لیکن درمیانی ۳ ٹیلوں کے پاس پھر سخت۔ اس لیے سخت حصوں میں کھدائی کم ہوتی تھی۔

دس دس آدمیوں کی ٹکڑی بنائی گئی (یعنی ۳ ہزار آدمیوں سے ۳ سو ٹکڑیاں) ایک ٹکڑی میں خود آنحضرتؐ بھی عام رضا کار کی طرح شریک ہو گئے۔ اس مخصوص ٹکڑی کے افراد یہ تھے۔ محمدؐ، ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، سلمانؓ، حذیفہؓ، نعمانؓ اور (۸)، (۹)، (۱۰) تین دیگر صحابی۔

حرہ میں سنگ مرمر کی ایک چٹان سے رضا کار عاجز ہو کر یہ اجازت لینے آئے کہ پیاسی جگہ (ALIGNMENT) سے خندق کو ذرا ہٹادیں۔ تو آنحضرتؐ نے اس کی اجازت نہ دی بلکہ خود تشریف لے جا کر چٹان کو توڑ دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے طبری اور ابن ہشام کے حوالہ سے بیان کیا ہے، "سیرۃ النبویؐ" میں بھی صحیح بخاری کے حوالہ سے بیان ہوا ہے کہ "پتھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آگئی۔ کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی۔ رسول اللہ تشریف لائے۔ ۳ دن کا فاقہ تھا، اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپؐ نے دست مبارک سے پھاڑا مارا تو چٹان ایک تودہ خاک تھی" تجرید البخاری کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

مَنْ جَابِزٌ قَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخُنْدِ قِ
 نَحْفَرُ فَعَرَضَتْ كَذِبِيَّةٌ شَدِيدَةً
 فَأَخَذَ النَّبِيُّ الْمِقْوَالَ فَضَرَبَ
 فِي الْكَذِبِيَّةِ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلًا
 ہم لوگ خندق کے دن زمین کھود رہے تھے اتفاقاً
 ایک سخت چٹان نکل آئی۔ پس نبی نے ہاتھ میں
 گینتا (PICKAXE) اٹھایا اور چٹان
 میں ضرب لگائی تو وہ چٹان نرم ہو گئی۔

یسی چٹانیں ٹوٹتی تو اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے باوقاف اور شامی کی ایک روایت کا تذکرہ
 حیدر اللہ صاحب نے اس طرح کیا ہے کہ "ابو بکر و عمر کبھی کام کرنے میں یا کہیں آنے جانے میں
 ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ مٹی کو اپنے کپڑوں میں ڈھونڈتے تھے کیونکہ جلدی
 میں ٹوکریاں نہیں مل سکتی تھیں"

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے (عہد نبوی کے میدان جنگ میں) اُس موقع پر مذاق و دل لگی
 ایک واقعہ بھی درج کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت اُس وقت دس بارہ سال کے بچے تھے
 کھدائی میں ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ایک دن محنت سے تھک کر لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ حضرت
 عمارہ بن حزم نے (جو چل بل طبیعت رکھتے تھے) بچے کی کھدائی کا سامان اور کپڑے اٹھا کر کہیں
 پھپھپا دیا، جب پتھر اٹھا تو "اپنی کوتاہی اور قصور" پر گھبرا گیا! اسی لیے آنحضرت نے زید بن ثابت
 کو "ابورقاد" (یعنی بڑا سونے والا) کہہ کر ملامت کی اور دوسری طرف حضرت عمارہ کو تنبیہ
 کی کہ ایسا مذاق مناسب نہیں! (اخلاق تربیت اس طرح ساتھ ساتھ ہوتی!)

کام کی سختی کو بھلانے کے لیے عام طور سے خوش دل مزدور آج بھی جہاں آزادانہ ماحول
 مل جاتا ہے صنعتی مقامات پر گورس (CHORUS) گا گا کر اپنے کام کو ہلکا کر لیتے ہیں۔
 یہاں میں تو خواتین مزدور گا گا کر ہی اپنا کام نٹا لیتی ہیں۔ بالکل یہی نقشہ ہمیں اس وقت
 ۳۱ میل خندق پر ۳ ہزار رضا کار کا ملتا ہے۔ سلج کا پہاڑ شاہد ہے کہ اُس کے پہلو میں صحابہ
 خندق کھودتے ہوئے کس طرح یہ شعر پڑھتے تھے:

"كُنُّنَ الَّذِينَ يَأْتِعُونَ مُحَسَّدًا + عَلَى الْإِسْلَامِ (سیرۃ النبیؐ میں الجہاد لکھا ہے)
 مَا بَقِينَا أَبَدًا" ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے محمدؐ کے ہاتھ پر بیعت اسلام (جہاد) کی
 ہے! رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

اور ابن رواحہ کے مندرجہ ذیل اشعار باواز بلند پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ دِيسِرَةَ الْبَنِيِّ مِثْلَ "وَاللَّهِ" هِيَ "وَلَا أَنْتَ مَا أَهْتَدِينَا + فَلَا تَصَدِّقْنَا وَلَا صَلِّتْنَا

دلے خدا تیرے سوا ہم کو ہدایت تھی کہاں + کیسے پڑھتے ہم نمازیں؛ کیسے دیتے ہم زکوٰۃ؟

فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا

اے خدا ہم پر سکینہ کا تو فرما دے نزول

إِنَّا الْإِهْدَاءَ قَدْ بَعُوثُوا عَلَيْنَا

بے سبب ہم پر یہ دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں

نِسْرَةَ الْبَنِيِّ مِثْلَ "أَبِينَا" كَالْفَلَجِ آبَاتُهَا تَوَازٍ زِيَادَةً بِلِنْدٍ هُوَ جَائِزٌ كَتَبَتْهُ

(صحیح بخاری: غزوة احزاب)

ان کے علاوہ مزید انصار و مہاجرین کے حق میں دعا بھی اس طرح دیتے جاتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَأَخَيْرُ الْأَخْيَرِ الْأَخْرَجَةِ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِ

ہنستے کیلئے اس طرح محنت کے ۲۰ دن ختم ہو گئے اور اسکیم کے مطابق مجوزہ خندق مکمل

ہونے لگی تو مختلف محلوں کے لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنی مدافعت کے لیے خندق میں اس طرح

توسیع کر لی کہ درنیچے نقشہ زمزمی، سلح پہاڑ کے مغربی گوشہ سے حرہ و برة اور وادی بطنان

اور وادی رانونا کے سنگم سے ملا دیا دُعہ نبوی کے میدان جنگ میں یہ بات درج ہے کہ

دِطْرَعِي نِي سَكَا هِي كَمَا اب وادی بطنان راستہ بدل کر اس جگہ سے گزرنے لگی ہے جہاں

خندق کھودی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر مغربی حرہ کے دامن سے مل کر بہتی

رہی ہوگی

کھدائی مکمل ہوتے ہی سوال میں دشمن

بھی آپہنچا۔ لہذا درج ذیل اقدامات

خندق مکمل ہونے پر آنحضرت کی ہدایات

کیے گئے:

• سب سے پہلے سیکڑوں کی تعداد میں مستوراتِ مدینہ، بال بچوں اور معذور و رول جانور، غلہ و قیمتی اثاثہ کو بنو قریظہ یہود کی آبادی کے قریب اُلم حسان میں منتقل کر دیا گیا۔

ایک گڑھی کی کہنہ چہار دیواری تھی (تلفہ مارع) اور حسان بن ثابت کی ملکیت تھی۔
محمد احمد باشمیل صاحب نے لکھا ہے کہ "۱۵ برس سے کم عمر لڑکوں کو جنگ میں شریک نہیں
کیا گیا۔ (طبری نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بنی حارثہ میں رہیں۔)

• طبری میں جنگ خندق کے بیان میں ابن اسحاق کی یہ روایت موجود ہے:
وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ
يَعْنِي مَدِينَةَ نِكَلِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءَهُ
حَتَّى جَعَلُوا أَنْظَهُوهُمْ إِلَى سَلْعٍ
شَمَالِ كِي طَرَفٍ بَرَّحْتَهُ كَيْ يَهَانَ تَمَّ كِي أَنَّهُوْنَ فِي نَظِي
فِي ثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
پٹھیں کر لیں سلع کی طرف، ۳ ہزار مسلمانوں کی تعداد
میں۔ اور پھر وہیں اپنا کیمپ قائم کر لیا اور خندق
پاس میں تھا۔

اس طرح مسلمانوں کا رخ خندق کی طرف تھا اور پشت سلع کی طرف تھی اڈاکر حمید اللہ صاحب نے
لکھا ہے کہ آپ کا خیمہ بھی اب جبل ڈباب سے جبل سلع کے ایک اہم مگر محفوظ مقام پر منتقل
کر دیا گیا۔ آپ کی خیمہ گاہ پر آج مسجد فتح بطور یادگار پائی جاتی ہے۔ اور اسی کے قریب
سُلع کی مغرب ڈھلوان اور دامن میں باب الشامی کی طرف آپ کے ۴ سپہ سالاروں کے
خیمے تھے۔ وہاں بھی بعد میں یادگار مسجدیں تعمیر کی گئیں جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ اور یہ سب مسجد الفتح کو ملا کر
"مسجد خمسہ" کے نام سے آج تک مشہور ہیں۔

• ان خصوصی خیموں کے علاوہ آنحضرت نے صحابہؓ کو مختلف دستوں پر تقسیم کر کے خندق
کے مختلف حصوں پر پانچوں ٹیلوں پر بھی جو خندق کی لائن پر پڑتے تھے، متعین کیا،
پہرے بٹھائے اور مدینہ کے دوسرے اطراف میں مناسب مقامات پر جہاں خندق نہ تھی
فقط مکانات و نخلستان تھے، نگرانی اور حفاظت کے لیے دستے مقرر کیے (ابن سعد زرقانی،
خندق کی حفاظت اور حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کو دو حصوں پر منقسم کیا۔ "مسجد ذبا
سے امام الشیخین تک مہاجرین کو زیر نگرانی زید بن حارثہ اور مسجد ڈباب سے مغرب
کی طرف خندق کے متوازی مسجد الفتح تک انصار کو زیر نگرانی سعد بن عبادہ نے خندق کا

ایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا، اور مدینہ کا امیر ابن اُمّ مکتومؓ کو بنا دیا گیا۔ چونکہ بنو قریظہ کی طرف سے ایضاً اندیشہ تھا اس لیے حضرت سلمہ بن اسلم کو دو سو آدمیوں کے ساتھ اس طرف بھی متعین کر دیا گیا۔

یہ مقرر کردہ تگڑیاں اور دستے باری باری خندق کا پہرہ دیتے۔ ایک مرتبہ رات میں مسلمانوں ہی کے دو دستوں کی ٹڈ بھیر ہو گئی اور ایک دوسرے کو نہ پہچان کر ایک دوسرے کو زخمی بھی کر ڈالا اور چند کی جان بھی گئی۔ پھر اپنے معمول شعار (WATCH WORD) کے نعرے لگانے سے متنبہ ہوئے؛ تیس سے کچھ زائد گھوڑ سوار بھی پہرہ دینے میں خندق کی طرف کر رہے تھے (واقعی)

غرض کہ اس طرح آنحضرتؐ نے اپنے محدود مادی وسائل سے دشمن کے متحہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ممکن العمل تدابیر کی اور پھر اللہ پر توکل کر کے اپنے کیپ (کمانڈ پوسٹ) پر پہنچے ہوئے یہ مسلم لشکر کی تعین سُلح پہاڑ کے شمالی دامن میں اور پھر خندق میں محصور ہو کر دشمنوں کے سُلح پہاڑ کی چوٹی سے میدان جنگ اور دشمن کی نقل و حرکت سے بخوبی واقف و باخبر رہے۔ کاپلان بظاہر تو نصرت و کامیابی کے امکانات کی نشاندہی کر رہا تھا!

احزاب کی آمد اور حملہ کی تیاریاں | احزاب پر ایک تعارفی نظر ڈالتے وقت ہمیں دشمن کی متحدہ قوت کا اندازہ ہو گیا۔

دریکھئے نقشہ 'ب'، مکہ کی طرف سے آنے والے قبائل بئر رومہ پر مقیم ہو گئے۔ شمال کی طرف سے آنے والے سارے قبیلے اور غطفان برکتہ الزبیر کے مغرب اور غابہ و بھرہ کے مشرق میں پہنچ گئے۔ اور یہودی قبیلے حنی بن اخطب کی سرداری میں بھرہ کے مغرب میں پہنچ گئے۔ یہ علاقہ کیمینگ کے لیے مختلف پہلوؤں سے بہترین تھا۔ مدینہ کی ندیاں وہیں پہنچ کر بھرہ کی طرف گرتی ہیں۔ اس لیے پانی کی فراوانی اور جانوروں کے لیے بھی چارہ کی سہولت تھی پھر فوجوں کے کھلا میدان۔ ان لشکروں کا کمانڈر ان چیف ابوسفیان بن حرب تھا۔ اس مرتبہ تو بہت بڑی جمعیت ان کے ساتھ تھی، اور پورا عرب اسلام کے استیصال کا عزم لے کر مدینہ کی طرف بڑھا تھا!

سب سے پہلے ابوسفیان جبل اُحد کے مغربی گوشے سے فوجوں کو لے کر اسلامی لشکر کی تلاش میں اُحد کے میدان کو عبور کرتا ہوا مشرقی حرہ کے کنارے آٹام الشیخین تک پہنچ گیا۔ وہاں انوکھی جدید کھدی ہوئی خندق دیکھی تو شامی رُخ سے حملہ کے لیے بڑھا۔ لیکن اس طرف بھی خندق راہ میں مائل تھی (چونکہ عربوں نے کبھی خندق کی جنگ نہ دیکھی تھی اس لیے وہ) حیران و ششدر رہ گیا (ابن سعد۔ زرقانی) بعض شہسواروں نے گھوڑے گدا کر پار ہو جانے کی ٹھان لی۔ مگر صحابہؓ نے پتھروں کی بوچھاڑ سے اُن کو ہٹا دیا۔ آخر کار جب کفار نے دیکھا کہ خندق کی وجہ سے اتنی بڑی قوت (FORCE) لے کر بھی باقاعدہ لڑائی محال ہے تو انہوں نے کھلے میدان میں ڈیرے ڈال دیے اور مدینہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور خندق کے کمزور حصوں (WEAK POINTS) کا پتہ لگا کر اُن سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں لگ گئے (ابن سعد۔ زرقانی) مدینہ بالکل سامنے تھا لیکن اتنی کثیر فوج بھی بے کار ہو رہی ہے؟ محمدؐ احمد باشمیل نے لکھا ہے کہ "یہ خندق جیسے کوئی بڑا اثر دہاتا تھا جو مدینہ کو پیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ دشمن اپنے گھوڑوں کو لے کر ادھر رہ رہ چکر لگاتے تھے مگر ناکامی سے ہی واسطہ پڑتا! ان کی ہر حرکت کو خندق نے معطل کر کے رکھ دیا۔"

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی جمعیت شہر اور خندق کے درمیان متمکن تھی۔
محاصرہ کی سختیاں | سُلح کا بہاڑ عقب میں تھا۔ شہر کی حفاظت میں اسلامی لشکر دن رات چوکتا رہتا تھا!

• جس طرف (مغربی سمت میں) حضرت عمرؓ اور علیؓ متعین تھے پتھر بل جگہ ہونے کی وجہ سے خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی۔ اسی طرف ایک روز کفار نے کچھ جانی بازوں کو پیٹ کے بل رینگ کر بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اس کارروائی کو دیکھ لیا۔ حضرت عمرؓ نے فوراً ادھر کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک خندق کے پاس پشتہ کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دوسرا حصہ ترکش اور کمان لے کر آمادہ ہو گیا۔ جوں ہی خندق میں اترنا شروع کیا مشرکوں پر پشتہ کے پیچھے چھپے ہوئے مسلمانوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ کچھ مردہ ہو کر خندق میں گرے اور بقیہ گھبرا کر الٹے بھاگے اس طرح ان کی خاصی تعداد ضائع ہوئی۔
 (آفتاب عالم)

- ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کی کمان میں ایک مضبوط رسالہ تھا جس میں عرب کے نامی گرامی شہسوار تھے۔ اس رسالہ کے سواروں نے خندق کے اسی مخصوص مقام سے گھوڑا گدانے کا حوصلہ کیا۔ فقط ۴ سوار خندق کو پہنچانے کے (طبری) ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمرو ابن عبد قحطاب تھا جو ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا حالانکہ اس کی عمر اسی وقت ۹۰ برس کی تھی۔ سب سے پہلے وہی آگے بڑھا۔ گھوڑے کو مہینز کیا اور پارا تر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کیا اور ختم کر دیا اس کے بعد ضرار اور جبیر نے مذکورہ دونوں واپس ہو گئے۔ حضرت عمر نے ضرار کا تعاقب کیا تھا۔ چوتھا بہادر نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ واپس بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ نے تیر مارنا شروع کیا لیکن اس نے شریفانہ موت کی درخواست کی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر تلوار سے مارا، کہ شریفوں کے شایان شان تھا! عمرو ابن عبد ود کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہونا شکر کفار میں خوف سے دیکھا گیا (ذرقانی) اور نوفل بھی قریش کا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی لاش کے لیے تو قریش نے ۱۰ ہزار درہم بھی دینا چاہا، مگر آنحضرت نے یہ لاشیں بلا معاوضہ دے دیں۔ اب بھلا کیسے گھوڑا سوار خندق پہنچانے کی ہمت کر سکتے؛ یہ تو ماجرا اس تنگ ترین مقام کا تھا جہاں زمین بھی سخت تھی اور گھوڑا گدانا بھی آسان تھا۔ مگر دوسرے جوانب میں جہاں مٹی ڈھیل تھی پھسلنے کا بھی ڈر تھا۔ دیواری بھی قائم ہو گئی تھی گھوڑے کو پار کرنے کے بعد ٹھہرنے کی بھی امید نہ تھی؛ چنانچہ سب نے ارادہ ہی ترک کر دیا۔
- قریش کے سرداروں کی حفیہ مجلس ہوئی اور لڑنے کا ایک نیا اسلوب طے پایا کہ قریش کے مشہور جنرل ابوسفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ضرار بن الخطاب اور جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوتا کہ یہ جنرل تازہ دم رہیں اور باری باری سے حملہ کریں۔ دوسری طرف مدافعت کرنے والوں کو سوزنک کا موقع نہ ملے۔ لیکن اس طریقہ میں کامیابی نہ ہوئی۔
- ابوسفیان نے حکم دیا کہ ہر جگہ سے تیر برسوا اور پتھر پھینکو۔ مسلمان بہت تھوڑے ہیں یا تو مضروب و مجروح ہو جائیں گے یا تھک کر مدافعت سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں تو خندق کو بھر دیا جائے یا کسی جگہ پل بنا دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ (ارشاد الحکمت)

• مسلمانوں کو داخلی خطرہ بنو قریظہ کی طرف سے ہر وقت تھا۔ اگر وہ دشمن کا ساتھ دے کر جنگ میں علی الاعلان شامل ہوتے ہیں تو مسلمان دو آگوں کے بیچ (بین النارین) ہو جائیں گے یہودی پیچھے اور دس ہزار احزاب آگے اچانچہ اسی اندیشہ کا اظہار حضرت ابو بکرؓ کے بیان سے ہوا ہے "میں بار بار جل سلع کی چوٹی پر چڑھ کر نظر دوڑاتا اور جب مدینہ کے گھروں کو پرسکون پاتا تو خدا کا شکر کرتا" (پوزیشن دیکھیے نقشہ نمبر ۹۰ میں) معاہدہ کے مطابق تو بنو قریظہ کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ضروری تھا۔ لیکن رات کی تاریکی میں بنو النضیر کا سردار حنی بن اخطب ان سے ملا (جن کی تعداد تقریباً ۹۰۰ تھی) ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مطابق.. ۱۵۰ تھی) اور حکمت کے ساتھ یہ سکھادیا کہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر مدینہ پر پشت سے جنگ کے وقت حملہ کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی دھمکی بھی دی کہ اگر احزاب بلا تصادم واپس چلے گئے تو پھر بنو قریظہ کی خیر نہیں! محاصرہ میں روز بروز شدت بڑھتی گئی تو بنو قریظہ کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ ان افواہوں کی توثیق کے لیے آنحضرتؐ نے جاسوس بھیجے تو بنو قریظہ کی غداری کا ثبوت مل گیا، اس کے بعد بنو قریظہ نے شہر کے امن میں بھی غلطی ڈالنا شروع کر دیا۔ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے لیے خطرہ لاحق ہو گیا! اس انضمام سے احزاب بڑے خوش تھے! (سیرۃ النبیؐ حصہ اول) محمد احمد باشمیل نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ "جب بنو قریظہ کے آدمی ۲۰ اونٹوں پر کھجور، جو اور چارہ لاد کر نکلے (جسے یہود نے قریش کے لیے بھیجا تھا) تو مشرکین خوش ہو گئے۔"

• مستورات جس قلعہ میں (گڑھی کی چہار دیواری — دیکھیے نقشہ نمبر ۹۰ میں) تھیں وہ بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت آنحضرتؐ کے ساتھ مشغول ہے قلعہ پر حملہ کرنا چاہا اور ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ کر حملہ کے لیے موقوڈھونڈھ رہا تھا اس وقت غالباً حضرت سلمہ بن اسلم اپنے دو سو آدمیوں کو لے کر خندق کی طرف چلے گئے تھے یا بلا لیے گئے تھے) (زررقانی)

حضرت صفیہؓ (آنحضرتؐ کی پھوپھی) نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حسان بن ثابت (شاعر) متعین کر دیے گئے تھے۔ مگر حسان نے جرات نہ کی کہ جا کر اسے قتل کر سکیں۔ لہذا حضرت صفیہؓ نے خیمہ کی چوب سربہ مار کر اسے ہلاک کیا پھر اس کا سر کاٹ کر

پھینک دیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا لائیں۔ یہودیوں نے اس مقتول یہودی کو دیکھا تو بے حد مرعوب ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ قلعہ میں کچھ فوج بھی ضرور متعین ہے۔ اس خیال سے پھر حملہ کی جرات نہ کی۔

(ذکر تالیخ)

محاصرہ کے ابھی سخت ایام میں ایک دن ایسا گزرا کہ تمام دن لڑائی جاری رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بوچھاڑ کرتے رہے۔ مسلسل تیر اندازی اور سنگباری کی وجہ سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ اسی دن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت کی ایک عمر کی نماز یا زیادہ سے زیادہ ۴ نمازیں قضا ہوئیں! اس روز دشمن کی دس بارہ ہزار کی فوجیں اس زور شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اس صورت حال کی نزاکت اور اس معرکہ کی دردناک تصویر خود اللہ نے اس طرح کھینچی ہے:

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ
 اَسْفَلِ مِنْكُمْ وَادْرَاٰ عَت
 اِلَآ بُصَارٌ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ
 الْحَنَاجِرَ وَتَقْنُنُوْنَ بِاِلٰهِ الطُّنُوْا
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا
 زُلْزَالًا شَدِيْدًا ۝

جبکہ وہ تمہاری طرف آئے تمہارے اوپر سے
 دینی بنو قریظہ کی طرف سے، اور تمہارے نشیب کی
 طرف سے (یعنی شامی رخ سے)، اور نظریں خیرہ
 ہو گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم خدا کے متعلق
 عجیب بدگمانیاں کرنے لگے۔ اُس موقع پر ایمان
 والوں کی آزمائش ہوئی اور وہ بری طرح
 جھنجھوڑ دیے گئے۔ (احزاب: ۱۰-۱۱)

ایک طرف سردی کا سخت موسم، پھر مسلسل کئی کئی وقت کے فائقے، نہ راتوں کی نیند نہ دن کا آرام، ہر وقت جان کا خطرہ، مال اور اولاد سب کچھ دشمن کی زور پر مقابلے میں بے پناہ شکر کا ہجوم۔ کمزور ایمان والے اور منافقین ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ "ہم سے اللہ نے اور اُس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب دھوکہ ہی تھا" (احزاب آیت ۱۲) ان لوگوں نے نبی کریم سے کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے گھروں پر ہی رہ کر حفاظت کریں۔ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں" (احزاب آیت ۱۴) (حیات طیبہ)

دوسری طرف آنحضرتؐ نے محاصرہ کی سختی دیکھ کر حنیفہ قاصد غطفانیوں اور مزاروں کے پاس بھیجے اور مدینہ کی پیداوار کا ایک ٹکٹ لے کر اگر وہ محاصرہ سے دست بردار ہو جائیں تو معاہدہ کرو۔ لیکن جب روساء انصار سے مشورہ کیا گیا تو وہ کسی حال میں بھی آمادہ نہ ہوئے اور معاہدہ کا کاغذ لے کر تمام عبارت مٹادی۔ (ابن ہشام ص ۶۷ اور طبری۔ ج ۲ ص ۱۲۷)

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے حلیفوں میں پھوٹ ڈلوانے اور غلط فہمی پیدا کرانے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ "آنحضرتؐ نے چند نو مسلم کارندے بنو قریظہ کے پاس بھیجے جن کا اسلام لانا ابھی مشہور نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بنو قریظہ میں اپنے دوستوں سے کہا کہ قریش کا جینا سو فیصد تو یقینی نہیں۔ تم نے اگر محمدؐ سے خواہ مخواہ جھگڑا مول لیا اور قریش محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے تو پھر تم تنہا محمدؐ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ بہتر ہو کہ تم قریش سے چند یرغمال مانگو کہ وہ لڑائی کو انتہا تک جاری رکھیں گے۔ یہ چیز جب ان کی سمجھ میں آگئی تو یہی کارندے قریش وغیرہ حلیفوں میں پہنچے اور مشورہ کیا کہ بنو قریظہ اور آنحضرتؐ میں ساز باز ہوگئی ہے اور وہ قریش کے یرغمال سرداروں کو کسی بہانے اپنے پاس بلا کر آنحضرتؐ کے سپرد کر دینا چاہتے ہیں۔ اتنے میں بنو قریظہ کے سفیر پہنچے اور اپنے حملے سے پہلے چند یرغمال طلب کیے تو فوراً قریش کو یقین آگیا کہ ان کی آنحضرتؐ سے ساز باز کی خبر صحیح ہے" (ابن ہشام وغیرہ)۔ چنانچہ قریش اور بنو قریظہ کے یہودیوں میں کشیدگی پیدا ہوگئی اور یہ بات کانٹرز ان چیف ابوسفیان کے علم میں بھی آگئی کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے صلح کرلی ہے۔ اس طرح یہود اور احزاب کے درمیان نفاق ہو گیا۔

محاصرہ کا اختتام | محاصرہ کی مدت مختلف کتابوں میں ۲۰ دن سے لے کر تقریباً ایک ماہ تک ملتی ہے۔ اس محاصرہ میں مسلمانوں کو تین تین وقت تک کھانا میسر

نہیں آتا تھا! سخت امتحان کے دن تو اللہ نے کاٹ دیے۔ جنگی تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ آنحضرتؐ نے ہمیشہ نصرت و کامرانی کے لیے دعا مانگی ہے۔ خندق کی داغ بیل ڈالتے ہی تمام رضا کار تو گھدائی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کر سوتے تھے لیکن آنحضرتؐ جنگی دفتر ہی میں مسجد ذباب کیمپ میں آرام فرماتے تھے۔ شب میں اسی وقت سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب محاصرہ میں نازک ترین دن آگیا تو آپؐ نے اللہ سے جو دعا مانگی

اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے:

اللَّهُمَّ مَنْزِلَ الْكِتَابِ سِرِّي الْحِسَابِ
اهْرَبْ مِنْ لَأَحْزَابٍ أَهْرَبْ مِنْهُمْ
وَذَلِّزْ لَهُمْ

یا اللہ کتاب کے اتارنے والے، حساب جلد
لینے والے ان فوجوں کو بھگا دے۔ ان کا
پاؤں اکھڑ دے اور انہیں ہلا دے!

• اللہ نے رُماں لی جس کا اندازہ سورہ احزاب کی آیت ۹ سے مترشح ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ
جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد
کرو جبکہ فوجیں تم پر ٹوٹ پڑیں تو ہم نے ان پر
طوفانی آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں جن کو تم نہیں
دیکھ سکتے تھے۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا
جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔

• میدان جنگ کا حشر کیا ہوا، آخری رات کو مشرکین کی یہ رائے ٹھہری تھی کہ دوسری صبح
قبائل کی متحدہ فوج ایک زوردار حملہ کر کے مدینہ پر ٹوٹ پڑے! مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا
ہوتا ہے۔ ہوائے تند کا ایک بڑا جھونکا اچانک آیا، جیسے اکھڑ گئے، دیگے چوڑھوں پر الٹ
پلٹ گئے، بدن بھی ریزہ ہائے سنگ کی مار سے چھلنی ہو رہے تھے۔ کفار پر خوف و ہراس طاری
ہو گیا۔ ابوسفیان نے سمجھا کہ قیامت آگئی اور رات کی تاریکی میں سمجھا گئے کی ٹھہرائی۔ اُس نے
فوج سے کہا رسد ختم ہو چکی ہے، موسم کا یہ حال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب محاصرہ بیکار
ہے۔ یہ کہہ کر طبل زحیل بجنے کا د کوچ کر کے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ عکرمہ ابن ابی جہل کو
اپنا نائب بنا کر ابوسفیان اپنے اونٹ پر روانہ ہوا اور کہا کہ تم سارے لشکر کو لے کر بس
اب چلے آؤ کیونکہ خیر نہیں! بدحواسی میں اونٹ کا گھٹنا کھولنا بھول گیا۔ عکرمہ نے اس کی بوکھلا
پر خرم دلانی۔ سپہ سالار کا میدان خالی کرنا تھا کہ سارے لشکر میں بدحواسی پھیل گئی اب
میدان میں کون ٹھہرنے والا تھا، غطفان بھی واپس چلے گئے اور بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں میں جا چھے
رات ہی رات ساری چھاؤنی خالی ہو گئی!

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظٍ عَظِيمٍ
اور اللہ نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ

لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ط وَكَفَى اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا ه (احزاب: ۲۵)

ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اور مومنین کی طرف سے
اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ ہی قوت والا
اور زبردست ہے۔

رات بھر طوفانی ٹھنڈی ہوا چلی اور صبح جب مسلمانوں نے فجر کی نماز ادا کی تو مشرکین کا کہیں
پتہ نہ تھا۔ اس فتحمدی پر ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
جُنْدًا وَنَصْرًا عَبْدًا وَأَعْلَبَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ
بَعْدَهُ (تجوید البخاری)

اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ وہ یگانہ
ہے جس نے اپنے شکر کو غالب کیا اور اپنے بندے
کی مدد کی اور جماعت کفار کو مغلوب کیا خدا کے
بعد کوئی شے نہیں ہے۔

اور پھر سارے مسلمان شادمان واپس لوٹے۔ بنو قریظہ کو سبق سکھانا باقی تھا چنانچہ آنحضرت
نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کی بد عہدی کی سزا ضروری جائے اور اسی دن ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔
ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے طبری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضیہ دوران محاصرہ اطم
بنی حارثہ میں رہیں، یہ مقام خندق کے گہرے سے باہر ہے، سیرۃ النبی جلد اول میں درج
ہے کہ حضرت عائشہ رضیہ جس قلعہ میں پناہ گزیں تھیں، حضرت سعد بن معاذ کی ماں بھی ان کے
ساتھ تھیں۔ اور یہ سعد بن معاذ بنو الاشہل ہی کے سردار تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضیہ کے اس
بیان سے کہ "میں قلعہ سے نکل کر باہر پھر رہی تھی تو عقب میں سعد ہاتھ میں خر یہ لیے جوش کی
حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جا رہے تھے تو حضرت سعد کی ماں نے پکارا "بیٹا دوڑ کر جا
تو نے دیر لگا دی" اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اطم بنی عبدالاشہل ہی میں تھیں جو خندق
کا آخری مشرقی ناکہ تھا اور وہیں سے دوڑ کر یہ آخری مجاہد شامل ہونے جا رہا تھا۔ شو می
قسمت ان کی زرہ چھوٹی تھی۔ دونوں ہاتھ باہر تھے۔ معرکہ میں ہاتھ ہی میں تیر لگا۔ زخمی ہو کر
واپس ہوئی تو مسجد نبوی میں ان کی مرہم پی رقبہ خاتون کی نگرانی میں کافی دنوں تک ہوئی
اور آنحضرت نے بھی زخم کو دوبارہ داغنا مگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے!
احزاب کی ناکامی کے اسباب مختصر اور درج ذیل تھے:

مسائل (۱) احزاب کے سارے افراد اسلام کے استیصال کا عزم لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ جبکہ اللہ کے نزدیک سارے انسانوں کے لیے اسلام ہی دین کی حیثیت سے اللہ کو پسند ہے اس لیے حقیقی مقابلہ اللہ سے تھا جس کے نامندہ آنحضرت تھے۔

مسائل (۲) مدینہ پہنچ کر خندق کا انوکھا سوال یہ سامنے آگیا، معزز ترین صحابی سلمان فارسی کے مشورہ پر اس زمانہ کی حربی تدبیر کا مجرب نسخہ (خندق) عمل میں لایا گیا۔ شکر جزا رکھ کر کبھی مدبھیٹ نہ ہو سکی۔ حسرت ویاس کے سوا اور کچھ نہ ہاتھ آیا۔ لا محالہ مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا۔ دوران محاصرہ اکاد کا حملہ کے نتائج خود شاہد ہیں کہ اگر ہمت کر کے کوئی بہادر گھوڑسوار یا رینگنے والا پار ہو تو اس کا انجام کیا ہوا، اپنی فوج والے بھی اس نازک مقام پر پہنچ کر مدد نہ کر سکے۔ دوسری طرف ایک کثیر فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے قلت تعداد نے کوئی کمزوری نہ محسوس ہونے دی۔ اچانک حملہ کا اندیشہ نہ تھا۔ بالکل اطمینان سے مدافعت کر رہے تھے۔ بلکہ دشمنوں کی طرف سے برسائے ہوئے تیروں کو جمع کر کے جوابی کارروائی کر رہے تھے۔

مسائل (۳) کھدائی کے بعد دفاعی اقدامات کے لیے آنحضرت نے اپنی مختصر سی جماعت کو سلیقہ سے ترتیب دے کر کلیدی مقامات پر مامور کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدینہ اپنا گھر تھا! اس کے جغرافیائی نشیب و فراز سے پوری طرح باخبر تھے۔ جبکہ حملہ آور بہر حال اجنبی تھے!

مسائل (۴) اتنی دور سے مدینہ پر حملہ کرنے آئے تھے، اور بدر و احد کے تجربات کو سامنے رکھ کر اسی کا اندازہ کر کے ساز و سامان و رُسد کا انتظام کر کے آئے تھے۔ محاصرہ طویل ہو جانے پر اتنی بڑی تعداد کے لیے رُسد منگوانے کا انتظام ناممکن تھا!

مسائل (۵) اللہ پر توکل اور اسی سے نصرت و کامیابی کے لیے دعا۔ آنحضرت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے والے مومنین جاں نثار و مخلص رضا کاروں کی ٹیم تھی جو ہر وقت پوری مستعدی و ذمہ داری اور پورے صبر و استقلال کے ساتھ مصیبتیں جھیلنے کو تیار رہتی تھی۔ اس لیے رہنما کی بھی بہت افزائی ہوتی تھی!

مسائل (۶) آنحضرت کی طرف سے اتمام حجت اور ساری آزمائشوں کے بعد اللہ کی غیبی امداد آئی! تیز و تند طوفانی آندھی کی شکل میں!

۷۱) بنو قریظہ یہودیوں سے مستورات پر حملہ اور شہر کے عام امن و امان میں غلغلہ ڈالنے کی جو آس و امید باندھی گئی تھی اُس پر بھی پانی پھر گیا۔ دو باتوں کے ذریعہ۔ (۱) صفیہ کی جرات (۲) قریش کی یہودیوں سے بدظنی۔

۷۲) عمرو بن عبدود اور نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ جیسے عرب کے مشہور بہادروں کی ہلاکت پر بید خوفزدہ و مرعوب ہو گئے! اور کمزری آگئی، اور خود کمانڈر۔ ان۔ چیف کا آخر میں میدان چھوڑ کر جانا باعث تنقید و تنقیص بنا اور سارے احزاب اور فوجیوں میں بددلی آگئی۔

مومنین کے لیے سبق آموز تربیتی پہلو

جنگ خندق یا احزاب کے پورے واقعات کا

جائزہ لینے کے بعد قرآن کریم کی سورہ احزاب

کا خصوصی مطالعہ بھی ضروری ہے جس میں مومنین کی تربیت کے اہم اور مفید پہلو اس طرح نمایاں کیے گئے ہیں۔

• اللہ پر توکل کرنے سے پہلے کسی معاملہ اور مسئلہ پر مشورہ اور غور کر کے مادی ذرائع اور وسائل سے حتی الامکان استفادہ کر لینا چاہیے۔ جنگ بدر کے بعد جو آیت نازل ہوئی اُسی نے آپ کو یہ سبق سکھایا۔ "وَأَعِدُّوا لَهُمْ"۔ تاکہ مرعوب و خوفزدہ نہ ہو کر اور رفتہ رفتہ لوگوں پر دھاک جم جاتی ہے اور دشمنی کرنے کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا! اور پھر اللہ کے فضل پر یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اصل طاقت اُسی کے پاس ہے۔ یہ صورت پیدا ہو جائے تو غیبی امداد ہوتی ہے اس بارہ ہزار کا لشکر ۲ ہزار مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور اللہ نے غیبی مدد بھیجی (احزاب آیت ۹)

• مصائب کے وقت ہی انسان کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ کھرا اور کھوٹا نظر آتا ہے۔ خود کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی اندازہ کر لیتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ احزاب کی جنگ نے یہی کام کیا۔ سختی کے وقت کھوٹے لوگوں کا پردہ فاش ہو گیا (احزاب آیت ۱۲) اور کھرے لوگ زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لیے آمادہ ہو گئے (احزاب آیت ۱۳)

• جان و مال کے نقصان کا خوف انسان کی تمام کمزوریوں کی جڑ ہے۔ احزاب آیات ۱۶ و ۱۷ میں صاف صاف آیا ہے کہ "اے نبی! ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگو گے تو

بھاگنا نہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ کون ہے جو انہیں اللہ سے بچالے گا، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ انہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ کون ہے جو اسے روک دے؟۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔“

• احزاب آیت ۲۱ میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہی لوگ موزوں ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کی ملاقات اور آخرت میں ملنے والے انعامات کی امید ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہتے ہوں۔ جنگ کی ابتداء سے انتہا تک آنحضرتؐ کا یہ حال تھا کہ ہر مشقت جس کا آپؐ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپؐ خود سب کے ساتھ شریک تھے۔ بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپؐ نے حصہ لیا۔ نخذق کھودنے والوں میں آپؐ خود شامل تھے بلکہ رات میں بھی آپؐ فیلڈ آفس ہی میں رہ جاتے تھے، بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنیٰ مسلمان کے ساتھ آپؐ کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران آپؐ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن کے مقابلہ سے نہ ہٹے۔ بنو قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے اسی میں آپؐ کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔

اس موقع پر رسول اللہؐ کے استقلال، عزم، توکل علی اللہ اور صبر کا جو نمونہ سامنے آیا وہ قیامت تک ان تمام بندگانِ خدا کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور اس راہ پر قدم بڑھائیں۔ یہ نمونہ ایسا ہے جسے انہیں زندگی کے ہر موڑ پر سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی ان کے لیے اصل مشعلِ راہ ہے۔“ (حیاتِ طیبہ)

END

بنو قریظہ کے ساتھ جنگ

(ذیقعدہ و ذوالحجہ ۵ھ)

اسباب جنگ | (۱) مدینہ میں آکر آنحضرتؐ نے اُن کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا تھا جس کی رو سے اُن کو مذہب کی پوری آزادی دی گئی تھی اور جان و مال کی حفاظت کا اقرار کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بنو قریظہ رتبہ میں بنو النضیر سے کم سمجھے جا رہے تھے آنحضرتؐ نے ان کا درجہ بنو النضیر کے برابر کر دیا پھر بھی جنگ بدر کے موقعہ پر قریش کو اسلحے سے مدد دی تھی مگر یہ بد عہدی معاف کر دی گئی۔

(۲) بنو النضیر کی جلا وطنی کے وقت آنحضرتؐ نے بنو قریظہ سے رضامندی کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کی تجدید کی۔

(۳) باوجود ان مراعات کے انہوں نے غہد شکنی کی اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مخالفت کی۔
(۴) ایسے نازک موقع پر انہوں نے اُن مسلم عورتوں پر حملہ کا پلان بنایا تھا جو ان کے محلہ کے قریب محفوظ سمجھ کر بھیج دی گئی تھیں۔

(۵) یحییٰ بن اخطب بناوت کے جرم میں جلا وطن کر دیا گیا تھا اور خیر جاتے وقت اُس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آنحضرتؐ کی مخالفت پر کسی کو مدد نہ دے گا اور اُس معاہدہ پر اُس نے خدا کو ضامن ٹھہرایا تھا۔ پھر بھی اُس نے تمام عرب کو برا لکھتے کر کے جنگ احزاب قائم کر دی تھی۔ ایسی بدنام شخصیت کو بنو قریظہ جنگ احزاب کے بعد پھر اپنے ساتھ لائے اور امان دی۔

(۶) جنگ خندق کے بعد رسول کریم نے بنو قریظہ کو بلا بھیجا اور ایک موقع پر صفائی پیش کر کے دیا کہ وہ سامنے آکر اپنے اس طرز عمل کی وجہ بیان کریں ذیہ ایک طرح کی 'وجہ بتاؤ نوٹس' (SHOW-CAUSE NOTICE) تھی۔ لیکن بجائے حاضر ہونے کے وہ فوراً قلعہ بند ہو گئے اور درپردہ لڑائی کی پوری تیاری کر لی!

محاصرہ اور انجام خندق سے پلٹ کر جب آنحضرت گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل نے اگر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے۔ ان سے بھی نمٹ لینا چاہیے۔ آپ نے فوراً یہ اعلان فرمایا کہ "جو کوئی سبوح و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ دیارِ بنی قریظہ نہ پہنچ جائے" مشرکین و منافقین کو حیرت تھی کہ مسلمانوں نے ایک گھنٹہ بھی آرام نہ کیا اور پھر اپنے رسول کی اطاعت و فرماں برداری پر تیار ہو گئے۔

آپ نے حضرت علیؑ کو مقدمہ الجیش کے طور پر تقریباً ۲۰۰ مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر رسول کریمؐ اور ان کے ساتھیوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی کہ اس طرح یہ تادیبی دستہ واپس چلا جائے۔ لیکن آنحضرتؐ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ بنو قریظہ کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ لہذا پورا اسلامی لشکر آنحضرتؐ کی قیادت میں عشاء تک وہاں پہنچ گیا اور نماز عشاء کے بعد ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا۔ پچیس تیس روز تک اس محاصرہ کو جاری رکھنا پڑا (حالانکہ خندق کا محاصرہ اس سے کم ہی مدت میں اٹھایا گیا تھا) جب محاصرہ کی سختی نہ برداشت کر سکے تو بالآخر بنو قریظہ نے رسول کریمؐ سے یہ درخواست کی کہ ان کا معاملہ زمانہ جاہلیت کے ان کے پرانے حلیف اوس کے مسلمان سردار سعد بن معاذ کے سپرد کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کریں ان کو منظور ہوگا چنانچہ رسول کریمؐ نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی اور محاصرہ اٹھایا گیا۔

سعد بن معاذ کا فیصلہ بنی عبدالاشہل کے یہ سردار جنگ خندق میں تیسرے زخمی ہو گئے تھے اور ان کی تیمارداری ابھی مسجد نبویؐ کے کیمپ میں ہو رہی تھی۔ بہر حال کسی طرح ان کو اس پنچایت کے لیے آمادہ کر کے مجمع میں لایا گیا!

اس منصف مزاج ثالث نے محسوس کیا کہ ایسے معاملہ میں غیر تناک سزا دینی ضروری ہے تاکہ آئندہ معاہدوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے بلکہ انہیں مقدس تصور کیا جائے۔ اُس نے ذمہ دارانہ حیثیت سے دیکھا کہ جو سزا توراہ میں موجود ہو اُس سے نوکتر ہونی نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس نے غور و خوض کر کے اپنا فیصلہ اس طرح سنایا کہ۔

• اُن کے قابل جنگ لوگ قتل کیے جائیں۔

• باقی لوگ گرفتار کر لیے جائیں۔

• اُن کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے۔

اب ذرا توراہ (OLD TESTAMENT) سے استنباط باب ۲۰: ۱۰-۱۴ کے احکام

ملاحظہ ہوں:

”جب تم کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچو تو اُسے صلح کا پیغام دو۔ اور اگر وہ تم کو صلح کا جواب دے اور اپنا پھاٹک تمہارے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تمہارے باجگزار بن کر تمہاری خدمت کریں، اور اگر وہ تم سے صلح نہ کرے بلکہ تم سے لڑنا چاہے تو تم اس کا محاصرہ کرنا۔ اور جب خداوند تمہارا خدا اُسے تمہارے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈانا۔ لیکن عورتوں، اور بال بچوں اور چوپایوں اور اُس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا اور تم اپنے دشمنوں کی اُس لوٹ کو جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دی ہو کھانا“

فیصلہ پر عمل درآمد

ثالث اُن کا اپنا منتخب کردہ تھا! اور فیصلہ بھی اُن کی مقدس کتاب کے موسوی شریعت کے مطابق تھا! اگر فیصلہ محمدؐ پر چھوڑ دیا جاتا تو شاید بنو قینقاع اور بنو النضیر کی طرح زیادہ سے زیادہ سزا دے جلا وطنی ہی ہوگی۔

• تقریباً جنگ کے قابل ۴۰۰ افراد قتل کیے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی جو اس جرم میں بطور قصاص قتل کی گئی کہ اُس نے قلعہ پر سے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو مار ڈالا تھا۔ وہ خوشی خوشی آئی اور اُس نے تلوار کے نیچے سر رکھ دیا۔ دسیرۃ النبیؐ جلد اول میں ہے کہ ارباب سیر نے مقتولین کی تعداد ۶۰۰ بیان کی ہے مگر صحاح میں ۴۰۰ ہے، محمد علی لاہوری نے تو لکھا ہے کہ ۳۰۰ افراد قتل کیے گئے، حجتی بن اخطب بھی مقتول میں لایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔

باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ مرد اور بچے غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے۔ عورتیں کنیز بنالی گئیں۔ البتہ "رسول کریم نے اپنے رحم شایانہ سے بعض کو فیصلہ کی تعمیل سے مستثنیٰ فرما دیا۔ مثلاً زبیر یہودی کے لیے مع اہل و عیال و مال رہائی کا حکم دے دیا تھا۔ اور رفاعة بن شمویل یہودی کی بھی جان بخشی فرمادی" درحمتہ للعلمین۔ بحوالہ طبری ۵۵۰

مال و اسباب ضبط کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ "علاؤ آمد کے وقت جب مسلمان اُن کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگِ احزاب میں حصّہ لینے کے لیے اُن غداروں نے ۱۵۰۰ تلواریں، ۳۰۰ زرہیں، ۲۰۰۰ نیزے اور ۱۵۰۰ ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ اس

اکشاف کے بعد تو حضرت سعد کا فیصلہ بالکل حق تھا" (تفہیم القرآن جلد ۴)

• ڈاکٹر جمیل اللہ صاحب نے (عہد نبوی کے میدانِ جنگ میں) لکھا ہے کہ "بنو قریظہ کے مالِ غنیمت سے شام و نجد سے اسلحے اور گھوڑے خریدے گئے" (سیرت الشامی)

مختصر یہ کہ بنو قریظہ نے تازہ تازہ جو معاہدہ توڑ کر جنگِ احزاب میں حصّہ لیا تھا وہ ڈھکاچھ نہ تھا۔ اور آنحضرتؐ انہیں سبق بھی سکھانا چاہتے تھے۔ محاصرہ کے بعد فیصلہ کی رو سے انہیں معقول سبق مل گیا، ان سب باتوں کی تصدیق کے لیے قرآنِ کریم کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

وَ أَنْزَلَ اللَّهُ نَزْلًا ظَاهِرًا وَ هُمْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ
وَ قَدْ فَتَنَّا فِي قُلُوبِهِمُ الشَّرْعَبَ
فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ
فَرِيقًا

پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے (یعنی بنو قریظہ نے) اُن حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا۔ اور ان کے دلوں میں اُس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔

(احزاب: ۲۶)

صلح حدیبیہ

(ذیقعدہ ۶ھ)

● غزوہٴ احزاب کا نام ذیقعدہ ۶ھ میں ہوا۔ جس کے فوراً بعد بنو قریظہ کا

وسطِ عرب کے سیاسی حالات کا جائزہ

محاصرہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہودیوں سے کسی قدر نجات ملی۔

● جنگِ احزاب میں مُٹھ بھیرے نہیں لی تھی اور حملہ آور اپنے مقصد میں ناکام و بیزار ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ ایک طرف قریش اور دوسری طرف یہودیوں کے اندر اب بھی جنگی قوت باقی رہ گئی تھی اور ان کا پورا استیصال نہ ہوا تو اطمینان نصیب نہ ہو گا۔ اس خیال کے ساتھ اب آئندہ کے لیے حکمتِ عمل بھی ضروری تھی۔

● حُجی بن اخطب کے قتل کے بعد خیبر میں اس کا جانشین ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ہوا جو بہت بڑا تاجر تھا۔ قبیلہ غطفان کی آبادی خیبر سے متصل اور ان کی حلیف تھی۔ اب سلام نے خود جا کر غطفان اور قرب و جوار کے قبیلوں کو اسلام اور مسلمانوں سے لڑنے کی خاطر ایک بہت بڑی بھیڑ جمع کر لی! — آنحضرتؐ کو یہ خبر ملی تو آپؐ کی ایساۓ سے رمضان ۶ھ میں ایک خزر جی انصاری عبد اللہ بن عتبیک نے اس کی خواہگاہ میں قتل کر دیا۔

● حدیبیہ کے لیے روانگی

اسی اثناء میں آنحضرتؐ نے مکہ معظمہ کا ارادہ کر لیا۔ عمرہ کا احرام باندھا۔ قربانی کے اونٹ ساتھ لیے اور اس غرض سے کہ قریش کو شک نہ ہو پیام بند تلوار لے کر لوگوں کو چلنے کی اجازت دی۔ مہاجرین و

انصار سے ۱۲۰۰ اشخاص ہم سفر ہو گئے۔ مدینہ کے باہر پہنچتے ہی قربانی کی رسم تو مقام زوالخلفہ میں ادا کر لی گئی۔ عسفان کے مقام پر پہنچے تو خبر مل کر قریش بڑی تیاری کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد مکہ میں کبھی نہیں آسکتے! آنحضرتؐ نے حد پیدہ پہنچ کر قیام کیا۔ وہاں اسلام کے حلیف اور رازدار بنو خزاعہ کے لوگوں نے بھی آکر خبر دی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آرہا ہے اور وہ آپؐ کو کعبہ میں داخل نہ ہولے دیں گے۔ ایسی صورت حال سے باخبر ہونے پر آنحضرتؐ نے قریش کے پاس یہ اطلاع بھجوائی کہ ہم صرف عمرہ ہی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں۔

جنگ احزاب نے قریش کی حالت ابتر کر دی تھی۔ ان کے لیے بہتر تھا کہ کچھ مدت کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور اگر اس پر بھی وہ راضی نہیں تو پھر یہ الٹی میٹم دے دیا کہ "میں خدا کے فیصلہ تک ان سے جنگ کے لیے بالکل تیار ہوں"۔ اس حکمت عمل کے باوجود کھٹکوں کے کسی مراحل کے بعد ہی تاریخ اسلام کے اس اہم صلح نامہ (صلح حدیبیہ) کی تکمیل کی نوبت آئی۔ جو بظاہر تو مغلوبانہ تھی (بلکہ کسی صحابی خود قریش کی پیش کردہ شرائط کے سخت خلاف تھے) مگر ۳ دن بعد ہی واپسی پر جب راستہ ہی میں قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا جس میں اسے "فتح مبین" کا لقب ملا تب کہیں آنحضرتؐ کے ساتھ مطمئن ہو سکے!

شرائط صلح یہ تھے

(۱) مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

(۲) اگلے سال آئیں اور صرف ۳ دن قیام کر کے چلے جائیں۔

(۳) ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام میں نیام بھی تھلے میں رکھ کر

(۴) مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور جو مکہ میں رہ جانا

چاہے اس کو نہ روکیں

(۵) کافروں یا مسلمانوں میں سے جو شخص مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی

مسلمان مکہ میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

(۶) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک

ہو جائیں۔

(۷) یہ معاہدہ دس سال تک قائم رہے گا۔

صلح کی وجہ سے مسلمان اور کفار کی آمدورفت بڑھی باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا۔ خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھینچنے لگے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہیں لائے تھے۔ اور شرائط نمبر ۴ و ۵ پر جب عمل درآمد شروع ہوا تو خود بخود ایسی پیچیدگیاں سامنے آئیں کہ قریش نے مجبور ہو کر شرائط سے بے زاری محسوس کی جس کی خبر آنحضرتؐ کو بھیجی اور شرائط کا خاتمہ ہو گیا۔

حدیبیہ کی صلح سے بڑی حد تک اطمینان نصیب ہوا۔ اور یہ آپؐ کا سیاسی تدبیر ہی تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے (عہد نبوی کے میدان جنگ میں) اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”معرکہ خندق کے دوسرے سال ذیقعدہ ۳ھ میں آنحضرتؐ مکہ گئے اور قریش کی منہ مانگی شرطیں قبول کر کے دس سال کے لیے اُن سے صلح کر لی اور اُن سے یہ چاہا کہ وہ اسلامی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں۔“

چنانچہ اب آنحضرتؐ یہودیوں کے گڑھ خیبر کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو سکتے تھے جبکہ قریش کی طرف سے کسی مدد کے پہنچنے کا سوال ہی باقی نہ تھا؟

غزوہ ذی قرد یا غزوہ غابہ

(ذوالحجہ ۶؎ھ)

غزوہ ذی قرد کا سبب اور واقعات | ابورافع سلام کے قتل کے بعد خیبر میں
اُسیر بن رزام اُس کا جانشین منتخب

ہوا۔ اُس نے قبائلِ یہود کو خطاب کر کے کہا: "صحیح تدبیر یہ ہے کہ خود محمدؐ کے دارالریاست
(مدینہ) پر حملہ کیا جائے اور میں یہی طریقہ اختیار کروں گا۔" جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو آنحضرتؐ
نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ تحقیق کے بعد آپؐ نے پھر عبداللہ بن رواحہؓ
کو ۳ صحابیوں کے ساتھ خیبر روانہ کیا تاکہ فتنہ کا سدباب ہو جائے۔ آنحضرتؐ کے ذہین اہلچی
نے متحدہ عرب کی یورش کی ناکامی اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کا موازنہ کرتے ہوئے صلح کی
گفتگو کے لیے اُسیر کو مدینہ تک آنے پر راضی کر لیا۔ اُسیر کے بھی ۳۰ آدمی ساتھ ہو گئے۔ دونوں طرف
کی تعداد مساوی تھی۔ راستہ میں اُسیر کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ پلٹنا چاہا، اور عبداللہ بن رواحہؓ
کی تلوار چھیننی چاہی۔ جنگ ہوئی تو یہود کے تیس میں سے ایک کے سوا کوئی نہیں بچا۔ یہ واقعہ
ذوالحجہ ۶؎ھ میں ہوا۔

یہ اور اس سے پہلے کے مذکورہ چھوٹے موٹے واقعات سے (وسط عرب کے سیاسی
حالات کے جائزہ کی روشنی میں) ہوا کے رخ کا اندازہ ملتا تھا! خیبر اب بھی اسلام کے لیے
سب سے زیادہ خطرناک تھا! ادھر مدینہ کے منافقین بھی اُن کو ابھارتے رہتے تھے۔ رئیس المناقین
(عبداللہ بن ابی) نے اہل خیبر کو خبر دی کہ آنحضرتؐ کی کیا ہستی ہے؟ ہٹھی بھر آدمی ہیں جن کے

پاس ہتھیار تک نہیں ایہودیوں نے یہی خبر غطفان تک پہنچا کر اپنے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی
 تجھز پیش کر دی۔ اسی طرح بنو فزارہ کو جب معلوم ہوا کہ خیبر والے آنحضرتؐ پر حملہ کرنا چاہتے
 ہیں تو وہ بھی شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اس پس منظر کو سامنے رکھ کر صحیح یوزیشن سمجھیں
 آسکتی ہے کہ یہودیوں کی ہمت افزائی کس طرح ہو رہی تھی!

نقشہ نمبر ۱۴، پر ایک نظر ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا کہ مدینہ والوں کی کھیتی کے لیے شاداب
 زمینیں شہر سے شمال کی جانب ۲ میل کے بعد ہی ندیوں کے نشیبی خطوں میں تھیں۔ اور آگے شمال
 مغربی خطے میں غابہ اور چوناملی ہونی مٹی کا علاقہ ہے جہاں جھاڑی و چراگاہیں تھیں۔ چنانچہ مدینہ
 کے کئی مالدار صحابیوں کی ملکیت اُس طرف بھی تھی۔ اسی غابہ سے ہو کر مدینہ سے خیبر اور قبائل
 غطفان وغیرہ کی طرف راستہ جاتا تھا۔ اور غابہ سے مغرب جُرف کی طرف عبد الرحمن بن عوف کی
 کاشتکاری تھی جہاں اُن کا آدمی ہر وقت رہتا تھا۔ اور اسی طرف ذوقرد، میں جو مدینہ سے
 تقریباً چھ میل دور ہوگا آنحضرتؐ کی اوفٹینیوں کی چراگاہ تھی۔ ظاہر ہے یہ چراگاہ مدینہ سے
 زیادہ دور اور غطفان و خیبر کے زیادہ قریب تھی۔

سیرۃ النبیؐ کا بیان ہے کہ ایک روز غطفان کے چند آدمیوں نے عبد الرحمن بن عیینہ کی
 سرداری میں اُس چراگاہ پر چھا پہ مارا۔ اور ۲۰ اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے۔ یہ کلم کھلا ڈکیتی تھی!
 حضرت ابوذرؓ کے صاحبزادے کو جو اوفٹینیوں کی حفاظت پر متعین تھے قتل کر دیا۔ اور ان کی بیوی
 کو گرفتار کر کے لے گئے۔ مسلمانوں نے جب تعاقب کیا تو وہ درہ میں گھس گئے مگر عیینہ بن حصن
 جو قبائل غطفان کا سپہ سالار تھا ان کی امداد کو موجود تھا؛ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت
 سلمہ بن اکوعؓ کو اس غارتگری کی خبر معلوم ہوئی تو ”واصباما“ کا نعرہ لگا کر دوڑے اور
 حملہ آوروں کو با لیا جو اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ سُلْمَہ کے تیر برس نے پر حملہ آور بھاگ نکلے
 انہوں نے تعاقب کیا اور لڑ بھڑ کر تمام اونٹنیاں چھڑالائے — ذریعہ نبوتؐ میں
 پہنچ کر... آدمیوں کا مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ مگر آنحضرتؐ نے
 اعضاء سے کام لینے کا مشورہ دیا۔

”رحمۃ للعالمین“ میں درج ہے کہ نبیؐ نے ۵ صحابہؓ کے ساتھ تعاقب کیا جن میں

سلمہ بن اکوع بھی شامل تھے؛ تجرید البخاری میں غزوہ قرد کے تحت درج ہے کہ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ "میں صبح کی اذان سے پہلے مدینہ سے روانہ ہوا۔ ذی قرد میں رسول اللہ کی دودھ والی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ راستے میں مجھے عبدالرحمن بن عوف کا غلام ملا۔ اور کہنے لگا کہ رسول خدا کی اونٹنیاں پکڑ لی گئیں۔ پھر ہم لوٹے تو رسول اللہ مدینہ تک مجھے اونٹنی پر بٹھا کر لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائے وقوع پر محمدؐ خبر پا کر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور سلمہ بن اکوع مدینہ سے صبح کی اذان سے قبل روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں نماز پڑھ کر ذی قرد جا رہے تھے کہ عبدالرحمن بن عوف کے غلام نے ڈکیتی کی اطلاع دی۔ معلوم ہوتا ہے وہیں سے دوڑ پڑے اور جب چھڑا کر لے، تو محمدؐ بھی اسی طرف جا رہے تھے کہ سلمہ بن اکوع سے ملاقات ہو گئی۔ اور پھر آپ نے اونٹنی پر انہیں بٹھایا، اور یہ لوگ جلد مدینہ پہنچ گئے۔

اس واقعہ کے ۴ دن بعد ہی خیبر کی جنگ پیش آئی (عمر ۶۵)



جنگ خیر

(محرم شہ)

جنگ کے اسباب اسباب تو بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ جنگِ احزاب کے لیے یہودیوں کا رول انوکھا تھا۔ انہی لوگوں نے مکہ والوں کو ابھار کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ چنانچہ اُس وقت عرب کی متحدہ قوت اسلام کے خلاف مدینہ پر چڑھ آئی تھی، مگر خندق کی ٹیکنیک نے انہیں ناکام و نامراد واپس کر دیا تھا۔ ایک طرف انتقام دوسری جانب کھوئی ہوئی جنگی قوت و عزت کو ملک بھر میں بے حال کرنے کا جذبہ۔ جنگِ قریظہ کے بعد جی بن اخطب کے قتل کیے جانے کے بعد اُس کے لڑکے کے دل میں بھی انتقام کا جذبہ تھا جس کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ جنگِ ذی قرد کا مادہ سامنے آیا۔ اس طرح آنحضرتؐ بھی سمجھ چکے تھے کہ یہودیوں کو کچلنا ضروری ہے۔

مکہ سے دس سالہ صلح کر کے واپس آگئے تو کم از کم یہ اطمینان تھا کہ اگر شمال کے یہودیوں کی طرف رخ کیا جائے تو ان کی مدد میں مکہ والے نہ آئیں گے۔

غابہ کی طرف یکے بعد دیگرے چند چھیڑ چھاڑنے جو یہودیوں کی طرف سے ہونی اور بھی وجہ جواز فراہم کر دیا تھا۔ شمال کی طرف کاروانی راستہ غابہ ہو کر ہی جاتا تھا۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ روز بروز کی مزاحمت ختم ہو۔ لہذا آنحضرتؐ غطفان اور یہود کے مجوزہ حملہ کی مدافعت کے لیے مدینہ سے باہر نکل پڑے (محرم شہ) اور سب ساتھیوں کا اس امر میں اتفاق ہو گیا کہ دشمن کو آگے بڑھ کر روک لینا چاہیے۔ جنگِ احزاب میں

انہیں محاصرہ کی سمجھتی بھی یاد تھی، معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ رذی قرڈ کے دوسرے ہی دن یہ لوگ روانہ ہو گئے اور ۳ دن کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی (کیونکہ مدینہ سے خیبر کی مسافت اُس زمانہ میں پیدل ۳ دن میں طے ہوتی تھی)۔

خیبر کا جائے وقوع | مدینہ کے شمال مغربی حصہ میں خیبر ہے۔ مورخین اس بات پر اتفاق ہیں کہ خیبر کے یہود باہر سے جا کر بہت قبل بس گئے تھے چنانچہ مدینہ کے ملا وطن یہود بھی اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ وہیں جا کر بسے تھے۔

یہ لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے۔ کھجور کے درخت بھی لگاتے اور اب تو لڑائی کی بھی تیاری کرتے اس لیے اسلحہ فراہم کرتے اور مضبوط قلعے بھی تعمیر کرتے جن پر انہیں ناز تھا۔ اس طرح خیبر مضبوط قلعوں کے لیے مشہور تھا اور ہر وقت مسلح قوت بھی تیار رہتی! بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ فخر کے ساتھ کہتے تھے "بے چارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانیں؟ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہوا"

خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑیاں ہیں۔ یہ قصبہ عہد نبویؐ میں خالص یہودی آبادی کا قصبہ تھا جس کے گرد اگر خوشحالی کے زمانہ میں مستحکم قلعے بنا لیے گئے تھے۔ جن کے آثار اب تک باقی ہیں۔ وہ نخلستان جس کے کنارہ پر خیبر ہے بہت زرخیز ہے۔ حالانکہ خیبر اور اُس کے آس پاس والا سارا علاقہ حترہ و آتش فشاں والا ہے۔ "بعض مؤلفوں کی رائے میں خیبر کے یہودیوں کی بولی میں خیبر کے معنی قلعہ کے تھے۔ خیبر کا قدیم ترین ذکر بابل کے آخری کلدانی بادشاہ نبونعد (۵۳۹ ق م یا ۵۵۶ ق م) کے مینھی کتبے میں حتران کی منہدم جامع مسجد کے فرش کے ایک پتھر پر ملا تھا۔" (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور جلد نہم۔ مضمون ڈاکٹر حمید اللہ صاحب) عہد نبویؐ میں یہاں کے یہودی بہت خوشحال تھے۔ "چنانچہ مکہ میں شادی بیاہ کے موقع پر نہیں سے دگیں اور زیور کرانے پر لیے جاتے تھے (ایک مرتبہ زیور کھو گئے تو اہل مکہ نے ۱۰ ہزار دینار کا ہرجانہ ادا کیا) (ابن سعد ۲/۱: ۸۱، السرخسی: شرح السیر البکیر ۱/۱۸۶۔ بحوالہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور جلد نہم)۔"

موجودہ زمانہ میں مدینہ سے باہر نکل کر جو شاہراہ عرب کے شمالی علاقہ کو جاتی ہے وہ

یا اُحد کے شمال مغرب میں پہاڑی سلسلہ کے درمیان سے گزرتی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے
 مائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور (جلد نہم) میں خیبر کے متعلق بیان کیا ہے کہ "ایک نخلستان
 بیتہ منورہ سے تقریباً ۱۲۵ میل شمال میں بڑی راستے سے آنے والے حجاج کی شاہراہ پر واقع ہے۔
 ریٹا۔ اکلومیٹر تک یہ راستہ تنگ اور تپخ دار درروں سے ہوتا ہوا جاتا ہے جس کے دونوں
 طرف بلند پہاڑ ہیں۔ اس ساری مسافت میں حرہ یعنی آتش فشاں سے جلے ہوئے عناصر ملتے ہیں۔
 درخت اور پانی نام کو نہیں۔ مدینہ سے خیبر تک مشکل سے دو آبادیاں ملتی ہیں۔ خیبر بھی ایک حرہ ہے
 مدینہ سے آئیں تو شہر کے ۲۰/۱۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر سفید اور قابل کاشت لیکن افادہ زمینیں
 ملتی ہیں جو ۱۲/۱۰ کلومیٹر تک پھیل ہوئی ہیں۔ بعد ازاں پھر حرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حرہ میں شاہراہ
 کے دائیں جانب قدیم یہودی کھنڈریوں تک پھیلے ہوئے ہیں جن میں کچھ تالابوں کے منہدم سے بند نظر
 آتے ہیں امریکی انجینئر (TWITCHELL) نے سعودی عرب کی زرعی رپورٹ میں یہاں "سد الحصيد"
 دھیتنی کی آبپاشی کا بند) اور ۵ دیگر تالابوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے ایک نشیبی وسیع
 وادی ہے جس میں شہر خیبر آباد ہے۔ یہ نخلستان سے اس قدر پٹا ہوا ہے کہ کسی بلندی پر سے
 بھی شہر کے ختم و خال بالکل نظر نہیں آتے۔ عہد نبوی میں "محلۃ النبیۃ" میں کھجور کے ۴۰ ہزار
 پیڑ بیان کیے گئے ہیں (ابن الاثیر: البدایۃ ۲: ۲۰۲) آج کل بھی شہر کے جنوب میں ایک
 بلند پہاڑ کے دامن میں کئی میل لمبا ایک نخلستان ہے۔ "یورپین سیاحوں میں ڈاؤٹی کئی مہینہ
 تک خیبر میں (۱۸۷۰ء میں) مقیم رہا۔ اُس نے مدینہ سے خیبر کا فاصلہ ۲۰ میل لکھا ہے! ممکن ہے
 وہ سیاح کسی اور طویل راستے سے گیا ہو اور اُس وقت یہ موجودہ شاہراہ نہ بنی ہو؟

عہد نبوی میں شمال کی طرف جانے والا کاروانی راستہ غائب ہو کر جاتا تھا اور مدینہ سے خیبر تک
 کی مسافت موزخین کے بیان میں ۸ برید ملتی ہے (ابن برید ۱۲ میل۔ اس لیے ۸ برید کے
 معنی ۹۶ میل ہوں گے) کہیں کہیں ۸ منزل کی بات (سیرۃ النبیؐ) بھی گئی ہے، اور ایک منزل کو
 ۱۰ میل مان لیا گیا ہے۔ کہیں ۳ ہی منزل لکھا گیا ہے (شاید ۳ دن مراد ہوں گے) بہر حال ان
 لوگوں کے قیاس میں تقریباً اسی میل کا فاصلہ تھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ ۹۰/۸۰ میل کے لگ بھگ
 یہ مختصر پیدل کاروانی راستہ اُس وقت کا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان مائیکلو پیڈیا آف
 اسلام لاہور (جلد نہم) میں ذکر کیا ہے کہ عہد اسلامی کے جغرافیہ نگاروں میں سے ابوری

دعوتِ ۲۲۱-۲۲۲) نے کسی واقعہ حال شخص کا بیان اس طرح لکھا ہے کہ ”خیبر مدینہ سے ۸ ہری پر ہے پیدل ۳ دن میں آسکتے ہیں۔ مدینہ سے نکلو تو پہلے غابہ علیا، پھر سفلی کے بعد نقبِ دہاڑی راستہ، یردوج آتا ہے جہاں ایک مسجد نبویؐ ہے، پھر وادی الدومتہ آتی ہے جہاں کنویں ہیں پھر جبل اُشمذ، پھر حرۃ الشقۃ، (وہ حرہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لیے دشوار ہو) پھر نماز آتا ہے۔ ہر سے ۸ میل پر علاقہ خیبر کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے آگے خیبر اور اس کے قلعے ہیں“ (دیکھیے نقشہ: (۱) جدید شاہراہ (۲) قدیم راستہ)

مورخین کے بیانات پڑھنے میں خیبر کے قلعوں کے نام اور ان کی تعداد جو ہمارے سامنے آئی کچھ

قلعوں کے ناموں کی بھول بھلیاں

عجیب و نرہ ہے؛ — مثلاً
 (۱) جبر میں ۶ قلعے تھے — سلام، قومس، نطاۃ، قصارۃ، شق، مربط۔ ان سب میں قوت نہایت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مَرَّحَبِ دَعْبِ کا مشہور پہلو ان جو... اسواروں کے برابر مانا جاتا تھا، تاریخ یعقوبی کے مطابق اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی یہیں رہتا تھا، ”سیرۃ النبیؐ“ قلعہ کے رئیس کے نام کو عام طور پر مَرَّحَبِ پڑھا جاتا ہے لیکن اصل تلفظ ”مَرَّحَبِ“ ہونا چاہیے کیونکہ بہادر کے مقابلہ میں جب حضرت علیؑ نکلے تو یہ بہادر رجز پڑھتا ہوا بڑھتا تھا۔

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرُ أَيْ مَرَّحَبِ

شَاكِي السَّلَاحِ بَعْلُ مَجْرَبِ

دوسرے معرعوں میں مَجْرَبِ ہے تو پہلے معرعوں میں اس کا ہوزن مَرَّحَبِ ہونا چاہیے

ترجمہ: خیبر جانتا ہے کہ میں مَرَّحَبِ ہوں — سلاحِ پوش، دلیر اور تجربہ کار ہوں

(۲) خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے شمار میں دس تھے — قلعہ ناعم، قلعہ نطاۃ،

حصن صعب بن معاذ، حصن الزبیر، حصن الشق، حصن ابراہیم، حصن قومس، حصن وطم،

حصن سلام (رحمۃ اللعالمین جلد اول)

(۳) ”خیبر قلعوں کے لیے مشہور تھا۔ ان میں سات قلعے زیادہ مشہور تھے۔ ناعم، القومس، الشق،

النظارة، السلام، الوطیح اور الکتیبة“ (محمد احمد با شیل) (۴)
 ”خیبر میں یہودیوں کے چھ قلعے تھے۔ — نظارة، شق، قوص، ناعم، و طیح اور صعب“

(آفتاب عالم)

(۵) ”پرانے نام اب بھلا دیے گئے ہیں۔ اس لیے معلوم نہیں قلعہ ناعم کہاں تھا؟ (جو مورخوں کے مطابق سب سے پہلے سر ہوا تھا) پھر اندرون شہر کا قلعہ قوص فتح ہوا (جو خاندان ابوالفتح اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مسکن تھا) پھر حصن الشق اور حصن النظارة اور حصن الکتیبة سر ہوئے۔ اس کے بعد الوطیح اور حصن السلام۔ (دو آخری قلعے) کوئی ۲ ہفتوں کی کشمکش کے بعد فتح ہوئے“ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور۔ جلد نہم۔ ڈاکٹر حمید الشہ صاحب)

قلعوں کی فائل تعبیر اور ان کا تعارف | سب سے پہلے رحمتہ للعالمین میں
 نیا نام ”شق“ ملتا ہے جبکہ دوسری

کتابوں میں شق ملا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں ”شق“ محض کتابت و طباعت کی غلطی ہے۔ اسے ”شق“ ہی سمجھا جائے۔

اس طرح مذکورہ بالا بیانیوں کے اعتبار سے ۱۳ قلعوں کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ — سلام، قوص، نظارة، قصارہ، شق، مریطہ، ناعم، حصن صعب، حصن الزبیر، حصن الیر، حصن ابی طیح اور کتیبة۔ ناموں کے اعتبار سے ان قلعوں کا مختصر تعارف حاصل کیجیے:-

(۱) سلام — سلم، (بمعنی سیڑھی) کی جمع سلام ہے وسیلہ حاجت پڑنے پر وسیلہ پناہ یعنی ضرورت و ایمر منسی کے لیے ریزرو پناہ گاہ (اور آلات حرب کا خزانہ جس سے ضرورت پڑنے پر مدد دی جائے)

(۲) قوص — شیر بے آرام، جس کو قرار نہ ہو۔ ناقابل تسخیر قلعہ جو اپنی مضبوطی میں مشہور تھا۔

(۳) نظارة — کچی کھجور کا غلاف یا ڈٹھل (جو مضبوط ہوتا ہے)

(۴) قصارہ — کشادہ مضبوط مکان — زمین کا زرخیز ٹکڑا۔ غار کا کوڑا کرکٹ جو

پھلنی میں باقی رہ جائے۔ غلہ کی مالش کے دوران خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔

(۵) شق — ہر چیز کا آدھا۔ (نظاۃ اور شق دونوں بالمقابل ایک سے پہاڑ تھے گویا ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ شق نظاۃ ہی کا آدھا حصہ ہے؟

(۶) مَرَبَط — جانوروں کے باندھنے کی جگہ دَرَبَط سے۔ رباط الخیل کا مفہوم بھی سامنے رہے

(۷) ناعم — آسودہ زندگی والا (ناعم کی صفت ملائم، نرم و نازک ہونا) یہ قلعہ بھی مضبوط تھا اور بلذخ ہونے والا نہ تھا۔

(۸) صعب — سخت و دشوار، خود دار شیر، اس کا فتح ہونا آسان نہ تھا۔ یا کہ یہ قلعہ صعب بن معاذ

کے حصہ میں آیا تھا اس لیے یہ نام ہو گیا۔ (رحمۃ للعالمین میں) حصن صعب

بن معاذ ہی لکھا ہے)

(۹) حصن الزبیر۔ یہ حضرت الزبیر بن العوام کے حصہ میں آیا تھا اس لیے 'حصن الزبیر' نام

پڑ گیا۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور۔ جلد نہم۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب)

(۱۰) حصن البر۔ بر کے معنی ہیں خشک زمین۔ بر کے معنی ہیں نیکی کے ممکن ہے یہ بھی کسی البر

کے نام پر پڑ گیا ہو اور ان کے حصہ میں یہ آیا ہو؛

(۱۱) حصن ابی۔ وہ قلعہ جو ابی کے نام پر تھا۔

(۱۲) وطح — 'وطح' معنی مٹی۔ کھریا — ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے انسائیکلو پیڈیا آف

اسلام لاہور (جلد نہم) میں خیبر کی تفصیلات دیتے ہوئے لکھا ہے کہ "پھر

'جبل الاهییل، (ایسا پہاڑ جس میں مٹی ہو، 'ھییل' = مٹی ڈالنا وغیرہ) آتا

ہے۔ جس میں یہودی آطام (قلعے) ہیں۔ پھر مزرعے اور باغات ہیں جن سے

رسول اکرم کی ازواج مطہرات اور بنو المطلب کے روزینے مقرر تھے اسی کو

'الوطح' کہتے ہیں"

(۱۳) کتیبۃ۔ سواروں کا دستہ یعنی رسالہ (CAVALRY) ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور (جلد نہم) میں خیبر کی تفصیلات دیتے

ہوئے لکھا ہے کہ "وطح سے متصل خلیص تک ایک وادی جاتی ہے جسے

'الکتیبۃ' کہتے ہیں۔ یہ کتیبۃ خیبر کے قلعہ بند مقاموں میں سے ہے۔ پھر یہ بھی

لکھا ہے کہ "عہد نبوی میں 'مِحْلَة الْکِتَابَة' میں کھجور کے ۴ ہزار پیر بیان کیے گئے ہیں" (ابن الاثیر: البدایۃ ۴: ۲۰۴) [مِحْلَة الْکِتَابَة یعنی کتیبہ کے اترنے کی جگہ۔ جہاں رسالے رکھے جاتے تھے۔]

ناموں کے لحاظ سے مُرَبَّطہ کو کتیبہ کے تحت آنا چاہیے، اور اُسے 'الوطیح' کے قسریب ہونا چاہیے۔

مختلف تاریخی بیانات سے بھی خیبر کے قلعوں کی تعیین میں رہنمائی ملتی ہے: مثلاً

- رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ، میں جہاں قلعوں کے شمار دس ملے وہیں ایک نئی بات یہ ملی کہ (۱) قلعہ ناعم (۲) قلعہ نطاة (۳) حصن صعب (۴) حصن الزبیر۔ یہ چاروں حصون نطاة کے نام سے نامزد تھے؛ اسی طرح (۵) حصن شق (۶) حصن البر اور (۷) حصن اُبی۔ یہ تینوں حصون شق کے نام سے نامزد تھے؛ اور (۸) حصن قوس (۹) حصن و طیح اور (۱۰) حصن سلام۔ یہ تینوں حصون کتیبہ کے نام سے تھے؛ اس طرح جائے وقوع پر ۳ گروپ ہونا چاہیے اور ہر گروپ کو اپنے نام والے قلعہ سے قریب ہونا چاہیے۔

- 'آفتاب عالم' میں ہے کہ صبح کے وقت یہودیوں کے لشکر کے عین سامنے اسلامی لشکر ایک میل کے فاصلہ پر رُک گیا۔ پھر دونوں طرف کے لوگ آگے بڑھے اور ٹڈ بھینٹ شروع ہوئی۔ چونکہ اپنی کثرت (۱۰،۰۰۰) پر ناز تھا اس لیے پہلے میدان میں آکر صف آرا ہو گئے تھے۔ مگر عادت تو تھی قلعہ بند ہو کر لڑنے کی۔ اس لیے میدان میں مقابلہ نہ کر سکے اور میدان لڑائی کے بعد یہودی بدحواس ہو کر قلعوں کی طرف بھاگے۔ اور صعب قلعہ تک جا پہنچے (معلوم ہوتا ہے صعب قلعہ سب سے آگے تھا) قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہودی دوڑ کر داخل ہونے لگے، اور فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں پر سنگباری اور تیرانگنی کرنے لگے۔ اب گویا محاصرہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ قلعہ صعب ایسی جگہ واقع تھا کہ اس سے تمام قلعوں کو امداد پہنچ سکتی تھی۔

دوسری صبح نطاة کی طرف مسلمان بڑھے تو یہودی یہاں سے بھی بھاگے اور قلعہ قوس میں پناہ گزیں ہوئے۔ چنانچہ نطاة پر قبضہ ہو گیا۔

نطاة کے بعد قلعہ شق کی طرف کوچ کیا۔ یہاں کے لوگ بھی نطاة والوں کو بھاگتے

دیکھ کر قنوص میں جا گئے۔ شوق پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اور رات بھر اسی قلعہ میں آرام کیا گیا۔
 سیرۃ النبی کے مطابق: (۱) جس میدان میں لشکر اسلام نے ڈیرے ڈالے تھے
 اس کا انتخاب جناب بن المنذر نے کیا تھا (جنگ بدر کا میدان بھی انہی کی رائے پر منتخب
 ہوا تھا) یہ مقام رجب میں تھا (جو بنو عطفان اور اہل خیبر کے درمیان تھا) آنحضرت نے
 حکم دیا تھا کہ لشکر بڑا کیمپ اسی جگہ پر ہے گا جس کے ذمہ دار عثمان بن عفان تھے۔ اسباب
 بار برداری، خیمہ و خرگاہ اور مستوزات یہاں چھوڑ دی جائیں اور حملہ آور دستے یہیں
 جایا کریں۔

(۲) لشکر اسلام جب صہبائو میں پہنچا تو آنحضرت نے عصر کی نماز ادا کی۔ رستہ گھول کر آیا
 اور رات ہوتے ہوتے فوج خیبر کے قریب پہنچ گئی۔ عمارتیں نظر آنے لگیں۔ رات یہیں
 بسر کی۔ صبح کو خیبر میں داخلہ ہوا۔

یہودیوں نے مدافعت کے لیے مستورات کو ایک محفوظ مقام میں، رسد اور غلہ قلعہ
 نامہ میں یکجا کیا، اور فوجیں قلعہ نطاہ اور قنوص میں فراہم کیں لیکن قلعہ نامہ فتح ہونے کے
 بعد دوسرے قلعے باسانی فتح ہوتے چلے گئے۔ البتہ قنوص جو نہایت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور
 مڑحہب اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ یہ قلعہ حضرت علیؑ کے ہاتھوں ۲۰ دن کے محاصرے کے بعد
 فتح ہوا۔

ڈاکٹر جمید اللہ صاحب نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور (جلد نہم) میں معلومات
 فراہم کی ہیں۔ خیبر میں حصن و جدہ ہے جس میں کھجور وغیرہ کے درخت ہیں یہ مڑحہ خاص
 نبویؐ تھا۔ پھر جبل اہیل کے بعد مزرع اور باغات سے رسول اکرمؐ کی ازواج منہرات
 اور بنو المطلب کے وظیفے مقرر تھے اس کو الوطیح کہتے ہیں۔ و طیح سے غلص تک وادی
 الکیتیبتھی۔ یہ سب کی سب صرف خاص نبویؐ رہی ہے۔ یہیں القصباء ہے جہاں
 آنحضرتؐ نے پڑاؤ ڈال کر رات گزار لی تھی۔ یہ خیبر سے ایک بڑی مسافت پر ہے۔

خیبر کا سب سے بڑا قلعہ القنوص ہے اسی کے دامن میں مسجد نبویؐ ہے۔ وہیں نطاہ
 اور الشق دو وادیاں ہیں۔ ان دونوں کے مابین جو رقبہ ہے اُسے 'البطنۃ' یعنی شوق

والی زمین، نمکین و دلدلی زمین، کائی کے مانند جو پانی کے اوپر آجائے، اور المناضت، پانی میں گھسنے کی جگہ، کہتے ہیں۔ یہ اس بڑی مسجد نبویؐ تک جاتا ہے جہاں خیبر میں آنحضرتؐ کا قیام رہا۔

نظاۃ میں مرتب کا قلعہ اور قصر ہے۔ یہ قصر حضرت زبیر بن العوام کے حصہ میں آیا تھا۔ الشق میں 'المختہ' نامی چشمہ ہے جسے رسول اکرمؐ نے 'قسمة الملائکہ' کا نام دیا تھا۔ النظاۃ کا بڑا چشمہ 'التحیحة' کہلاتا ہے۔ خیبر میں سب سے پہلے دار بنی قحطہ فتح ہوا جو نظاۃ میں ہے اور اسی میں مرتب کا بھائی ایاس رہتا تھا۔ حسن الزبیر اپنے استحکام کے باوجود اس لیے فتح ہو گیا تھا کہ پانی کے ذخیرہ کے زمین دوز راستے کا پتہ ایک مقامی یہودی نے آنحضرتؐ کو بتا دیا تھا۔

الصعباء میں قبیلہ رظفان کے لوگ آپؐ کے راستے میں حائل ہوئے وہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب آپؐ نے الصعباء سے وادی الرزح 'دیار رظفان' کا رخ کیا تو وہ گھبرا کر فوراً اپنے مال و عیال کی حفاظت کے لیے گھر واپس آگئے اور پھر انہیں نقل و حرکت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ۳ دن الرزح میں ٹھہر کر آپؐ خیبر آگئے تھے۔

خیبر متعدد چھوٹے چھوٹے قبائلی محلوں پر مشتمل تھا اور وہاں دفاع کا نقشہ اس طرح تھا:

— وہ بڑے اور متعدد چھوٹے چھوٹے قلعوں میں محفوظ تھے۔

— بعض قلعوں میں منجیق بھی نصب تھی۔

— الیعقوبی کے مطابق ۲۰ ہزار اور المقریزی کے مطابق ۱۰ ہزار جنگجو سپاہی تھے۔

— اپنے مرکز میں ہونے کی وجہ سے حربی فوقیت رکھتے تھے۔

— آرزو اور ساز و سامان بھی ان کے پاس واقف تھا۔

السرخسی نے لکھا ہے کہ خیبر کے ہر قلعہ کو تین تین فصیلوں سے اس طرح گھیرا گیا تھا کہ سوار و فوج ان کے سامنے بے بس تھی۔

آنحضرتؐ کا مرکزی کیمپ اور حملہ کی پلاننگ | بہر حال مذکورہ بالا بیانات کی روشنی میں سارے پہلوؤں کو

مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقشہ تیار کر دیا ہے جسے ایک دم صحیح و درست تو نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن واقعات جنگِ خیبر کو سمجھنے میں کسی حد تک مفید ضرور ہو سکتا ہے۔ آئندہ اگر کوئی صاحبِ ذوق اس مقام تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکیں اور یعنی شاہدے کے بعد وہ کوئی بہتر اور صحیح نقشہ مرتب کر دیں تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ اس نقشہ کی اصلاح ہو جائے گی اور اللہ انہیں نیک اجر سے نوازے گا۔

مدینہ سے روانگی کے وقت آنحضرتؐ نے سباع بن عرفطہ غفاریؓ کو مدینہ کا افسر مقرر کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ دو سو سوار تھے اور چیدہ چیدہ پیدل فوج ۱۴۰۰ کیونکہ آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جو طالبِ جہاد و اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوں۔ طالبِ دنیا و مال و متاع نہ ہوں، پہلی بار ۳ علم تیار کرائے گئے۔ دو حضرت جناب بن المنذرؓ اور حضرت سعد بن عبادہؓ کو عنایت ہوئے اور خاص علم نبویؐ جس کا پھر براحضرت عائشہؓ کی چادر کے نیار ہوا تھا، جناب امیرؓ کو مرحمت ہوا۔ فوج روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن الاکووعؓ رجز پڑھتے ہوئے آگے چلے۔

ازواجِ مطہرات میں سے حضرت اہم سلمہؓ ساتھ تھیں۔ لیکن چند خواتین اپنی خواہش سے بلا اجازت فوج کے ساتھ چلی گئی تھیں جس پر آپؐ ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنی عرض و غایت یہ بیان کی تھی کہ پھر خیمات کر مرد، زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیراٹھا کر لانے میں ہاتھ بٹائیں گی۔ آنحضرتؐ غائب ہوتے ہوئے مختصر راستے ہی سے چلے اور مقامِ ریح، میں فوجیں اتار دیں۔ (جو اہلِ غطفان اور خیبر کے بیچ میں ہے) اسبابِ بار برداری، خیموں اور مستورات (تقریباً بیس) کو یہیں چھوڑ دیا گیا، اور فوجیں خیبر کی طرف بڑھیں تو القصباء کے پاس قبیلہ غطفان کے لوگ مسلح ہو کر آپ کے راستے میں مائل ہوئے کیونکہ وہ خیبر کے یہود کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب آنحضرتؐ نے القصباء سے 'وادی الریح' (دیارِ غطفان) کا رخ کیا تو وہ گھبرا کر فوراً اپنے مال و عیال کی حفاظت کے لیے گھرواپس آگئے اور پھر انہیں نقل و حرکت کی جرأت نہ ہوئی۔

(ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور جلد نہم)

معرکہ کے لیے اس میدان کا انتخاب تجربہ کار حضرت جناب بن المنذر نے کیا جنہوں نے بدر کے میدان کا انتخاب کیا تھا اور آنحضرتؐ نے حکم دیا کہ یہی مرکزی کیمپ رہے گا۔ اس کے انچارج حضرت عثمانؓ نائے گئے۔ حملہ آور دستے یہیں سے جایا کریں گے۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور جلد نہم میں لکھا ہے کہ ۳ دن التزیج میں ٹھہر کر آپؐ خیر آگئے۔ بہر حال کیمپ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے آدمیوں کو چھوڑ کر لشکر اسلام مقام الصبحاء، (پانی کی ٹھنڈی جگہ) میں پہنچا تو نماز عصر کے وقت آچکا تھا۔ وضو وغیرہ کے لیے پانی کا وافر ذخیرہ تھا۔ نماز کے بعد آپؐ نے بھی بھوں کے ساتھ ستو گھول کر پیایہ مقام خیر سے ایک برید کے فاصلہ پر تھا۔ تجرید البخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے بھی روایت ہے کہ رسول خداؐ نے خیر پر چڑھائی کی تو "أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ وَادٍ" (لوگ ایک نالے پر آئے) ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں) کہ غزوہ خیر میں آتے اور جاتے دونوں وقت رسول اکرمؐ نے ستر الصبحاء میں قیام فرمایا تھا۔ رات ہوتے ہوتے اسلامی فوج خیر کے سوا میں پہنچ گئی، عمارتیں نظر آئیں تو آپؐ نے جب متول یہ دے مانگی:

إِنَّا نَسْتَعْلِمُ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
وَأَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ
مَا فِيهَا (ابن ہشام)

داے اللہ۔ ہم تجھ سے اس گاؤں کی اور گاؤں
والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی چاہتے
ہیں اور ان سب کی بُرائیوں سے پناہ
مانگتے ہیں۔

چونکہ سنت نبویؐ یہ تھی کہ رات کو کسی مقام پر حملہ نہیں کیا جاتا اس لیے رات یہیں بسر کی۔ اِذَا
آتَى قَوْمًا بَيْدًا لَمْ يَغْزِبْهُمْ حَتَّىٰ يَصْبِحَ" (صبح بخاری) صبح کو خیر میں داخل ہوا۔ اہل خیر
کی طرف سے دفاع کی تصویر اوپر آچکی ہے جب آپؐ اُستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپؐ نے
۳ بار یہ کلمات دہرائے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا نَزَلْنَا
بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذِرِينَ (تجرید البخاری)

اللہ اکبر۔ خیر کی خرابی تھی ہے بے شک ہم جس
قوم کے میدان میں بقعہ جنگ فرکش ہوں تو
ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بُری حالت میں
ہوتی ہے!

حملوں کا آغاز اور انجام | پلاننگ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامنے ہی حسن صعب

پڑتا تھا۔ مؤلف آفتاب عالم کے بیان کے مطابق یہودی اپنی کثرت پر ناز کر کے میدان میں صف آرا تو ہو گئے مگر چونکہ ان کی عادت یہ محصور ہو کر لڑنے کی تھی، میدانی لڑائی سے بدحواس ہو کر حسن صعب کے کھلے ہوئے دروازے میں دوڑ کر داخل ہو گئے اور پھاٹک بند کر کے محصور ہو گئے۔ اب آنحضرتؐ کو بھی سوچئے۔ کا موقع مل گیا کہ پہلے کس طرف حملہ کریں؟ اور یکے بعد دیگرے ایک محسوس دقت پر اپنی پوری طاقت صرف کرتے چلے جائیں! ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ”پرانے نام اب بھلا دیے گئے ہیں اس لیے معلوم نہیں قلعہ نام کہاں تھا؟“ ”دومورخوں کے مطابق سب سے پہلے سر ہوا تھا“ ”دانا ٹیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور۔ جلد نہم، رحمتہ للعالمین حصہ اول میں قلعہ نام کا نام آیا ہے اور صاف صاف نطاۃ کے گروپ میں مع اور ۲ حصوں (حسن صعب اور حسن الزبیر) کے درجہ ہے۔ سیرۃ النبیؐ کا بیان ہے کہ ”سب سے پہلے قلعہ نام پر فوجیں بڑھیں، حضرت محمود بن مسلمہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے لیکن چونکہ گرمی تھی، تھک کر دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے۔“ ”کنانہ بن الزبیر نے قلعہ کی فیصل سے چھٹی کا پاٹ ان کے سر پر ڈرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی“ ”رحمتہ للعالمین حصہ اول میں یہ بھی لکھا ہے کہ“ ”محمود بن مسلمہ کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطاۃ پر جنگ کا آغاز کر دیا“ ”یہ بھی لکھا ہے کہ“ ”حضرت علیؑ نے قلعہ نام پر جنگ کی طرح ڈالی۔ اور مرتجب کو ختم کر دیا۔ پھر مرتجب کا بھائی یا سر نکلا اسے زبیر بن العوام نے خاک میں سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ کے عام حملہ سے قلعہ نام فتح ہو گیا“ ”ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ“ ”نطاۃ میں مرتجب کا قلعہ اور تھری ہے۔ یہ قصر حضرت الزبیر بن العوام کے حصے میں آیا تھا۔ خیبر میں سب سے پہلے دار بنی تبتہ فتح ہوا جو نطاۃ میں ہے اور اسی میں مرتجب کا بھائی ایسا رہتا تھا“ ”دانا ٹیکلو پیڈیا آف اسلام لاہور جلد نہم، — ان سارے واقعاتی بیانات، کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکلتا ہے کہ نام قلعہ کا وجود کہیں علیحدہ سے نہ تھا بلکہ محدود نطاۃ ہی میں تھا!

[نطاۃ] قلعوں کا یہ نطاۃ گروپ ایک ایسی پہاڑی پر تھا جس میں ایک نہری سے زمین دوز

راستہ کے ذریعہ پانی سپلائی کا پورا انتظام تھا۔ نطاۃ، ناعم کے بعل میں مہرب کے قلعہ اور قصر
 الی تعبیری پوزیشن بھی معقول تھی۔ قصر مہرب ہی میں دار بنی قمتہ کے حصہ میں اس کا چھوٹا بھائی
 (یا سیریا ایاس) بھی مقیم تھا (جیسا کہ یہودیوں کے دفاع کے منظر میں یہودی قبائل کا تذکرہ آچکا
 ہے، اور جب یہی قصر حضرت الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا تو اس کا نام حصن الزبیر پڑ گیا؛
 بنو النضیر مدینہ سے جلا وطنی کے بعد خیبر ہی میں مقیم ہوئے تھے۔ یہ لوگ قلعہ اور قصر کی
 پوزیشن متعین کرنے میں تجربہ کار تھے۔ مدینہ میں بنو النضیر کی بستی میں ایک ٹیلہ پر کعب بن اشرف
 کا قصر تھا جس میں سنگیں حوض تھا اور آب رسانی کے لیے وادی مذنب سے استفادہ کیا گیا
 تھا جو قلعہ سے ذرا اونچی سطح سے گزر کر آتی تھی۔ آج تک کھنڈر موجود ہیں اور ایک حصہ سے
 دوسرے حصہ میں پانی کے لیے مٹی کے ٹل بھی نظر آتے ہیں (عہد نبوی کے میدان جنگ) بالکل وہی
 پوزیشن نطاۃ گروپ کی ہو گئی۔ اور قصر مہرب اور دیگر قلعوں کو آرام دہ بنانے کے لیے زمین
 راستہ آب رسانی کا بنایا گیا۔ شاید قرین قیاس ہے کہ حصن صعب کو یہاں سے بھی پانی سپلائی
 کر دیا جاتا رہا ہو۔ پانی و دیگر ضروریات زندگی سے اس گروپ کو جب آسودہ کر دیا گیا اور
 ناعم، کا لقب اسے ملا "النطاۃ کا بڑا چٹمہ" الیخیمۃ کہلاتا ہے" (ڈاکٹر حمید اللہ صاحب)
 (یعنی لگاتار گرنے والا پانی)

بہر حال محمود بن مسلمہ کے شہید ہونے پر فوج کی کمان ان کے بھائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما
 اور شام تک کمال شجاعت و دلیری سے لڑتے رہے۔ یہ تجویز بھی رکھی گئی کہ نخلستان کے درختوں
 کو کاٹنا شروع کر دیں تو یہودی ہار مان جائیں گے، مگر آنحضرتؐ نے اس تجویز کو رد کر دیا۔
 اُس رات اور دوسرے دن یہودی جاسوس کے ذریعہ ایسی خبریں آنحضرتؐ کو مل چکی تھیں کہ
 نطاۃ کے یہودی آج کی رات اپنی مستورات اور بچوں کو قلعہ الشق میں بھیج رہے ہیں، نقد و
 مجلس کو قلعہ نطاۃ کے اندر دفن کر رہے ہیں، قلعہ الشق کے زخانوں میں قلعہ شکنی کے بہت سے
 آلات منجیق وغیرہ موجود ہیں، قصر و قلعہ کے اندر پانی ایک زمین دوز نالہ کی راہ سے جاتا ہے۔
 اگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے پانی پر قبضہ
 کر لیا تو اہل قلعہ باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑے مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی اور اپنے

استقامت کے باوجود قلعہ فتح ہو گیا۔ ظاہر ہے غلہ اور رسد پر بھی قبضہ ہو گیا ہوگا۔

یہودی بھاگ کر قوموں کی طرف چلے گئے۔ مگر خب بھی اپنے بھائی کے قتل کے بعد قصر چھوڑ کر قوموں ہی میں پناہ گزین ہو گیا۔ جو مضبوط ترین اور ناقابلِ تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، حصن صعب نطاۃ والوں کو کوئی مدد نہ دے سکا؟

[حصن صعب] تریخاً اس کے بعد حصن صعب کی طرف آنحضرتؐ متوجہ ہوئے۔ اس قلعہ کو جناب بن المنذر نے ۳ ہی روز محاصرہ کر کے فتح کر لیا جس سے جو کھجور اچھوڑے، مکھن روغن زیتون، چربی اور پارچہ بات کی کثیر مقدار ملی۔ اور اس قلعہ سے آلاتِ قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے۔ دایا معلوم ہوتا ہے یہ اسٹور تھا، اس قلعہ کے لوگ بھی قدرتی طور پر ان قوموں ہی کی طرف بھاگے! (کیونکہ نطاۃ توفیح ہو چکا تھا)

[الشق] بھاگنے والوں کے لیے یہ قوم ہی جائے پناہ تھی! مسلمانوں کے لیے پہاڑ پر نطاۃ کے [الشق] کی طرف پہلے جانا مناسب تھا۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ یہ راز تو معلوم ہی ہو گیا تھا کہ نطاۃ والوں نے مستورات اور بچوں کو قلعہ الشق میں بھیج دیا ہے! اور سب سے بڑی بات کہ قلعہ الشق کے تبرغانوں میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجیق وغیرہ موجود ہیں۔ [ان قوموں] نے بالآخر نیشے کے لیے الشق کی تسخیر حربی نقطہ نظر سے پہلے ضروری تھی۔ چنانچہ جب الشق کے یہودیوں نے دیکھا کہ اہل نطاۃ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہ بھی نہ ٹھہر سکے۔ بدحواس ہو کر نکلے قلعہ قوموں میں جا گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے الشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ رات بھر اسی قلعہ میں مسلمانوں نے آرام کیا اور پلاننگ ہوتی رہی۔ اسی قلعہ میں ایک چشمہ 'الحمتہ' ہے جسے آنحضرتؐ نے 'قصة الملائکہ' (ملائکہ کا حصہ) کا نام دیا تھا۔

[حصن ابی] اب حصن ابی کی باری آئی۔ قلعہ والوں نے سخت مدافعت کی۔ ان میں سے ایک آدمی باہر آیا۔ جناب بن المنذر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا آیا جس نے مقابل مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ یہودی پر رعب طاری ہو گیا اور وہ بالکل محسوس ہو گئے تو مسلمانوں کو لے کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اہل قلعہ آگ گئے لیکن اس قلعہ سے بکریاں، کپڑے اور بہت سا سامان ملا۔

حصن البر [اس کے بعد حصن البر پر حملہ کر دیا گیا۔ لیکن یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں
راتنے تیر برساتے اور اتنے پتھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں منجنيق کا استعمال کرنا پڑا۔
منجنيقوں سے قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ آلات قلعہ شکن وہی تھے جو
مال غنیمت کے طور پر حصن صعب اور الشق میں فراہم ہو گئے تھے۔

[القموص] اب سامنے خیبر کا مرکزی قلعہ القموص، کھرا تھا جو مضبوط ترین اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا
تھا۔ جس پر یہودیوں کو بڑا ناز تھا۔

ہر قلعہ پر حملہ ہوتے ہی وہاں کے لوگ بھاگ کر القموص ہی میں پناہ گزیں ہو رہے تھے یہودی
کی ساری قوت اب اسی بڑے قلعہ میں اکٹھا تھی۔ رُسد کا بھی پورا انظم اور اسلحہ بے بھی اچھی طرح
میس۔ آخری مرحلہ میں اب اُن سے مقابلہ تھا۔ ادھر آنحضرتؐ کو مال غنیمت میں رسد بھی حاصل
ہو گیا تھا اور قلعہ شکن آلات بھی، اور سب سے بڑی بات اتنے کم وقت میں اتنے قلعے فتح کر لینے
پر یہودی کافی مرعوب ہو چکے تھے اور شکر اسلام کی ہمت بڑھی ہوئی تھی۔

صبح صبح صدر دروازہ کے سامنے مسلمان میدان میں الصخرة تک پھیل گئے۔ اُس روز
حملہ نہیں کیا۔ بلکہ چند ذمہ دار گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعہ کے چاروں طرف گشت کر کے تسخیر کرنے کی تدابیر
سوچنے لگے۔ دوسرے روز صبح ہو کر صفیں مرتب کر کے پہلے قلعہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے۔ سب سے
پہلے حضرت عمرؓ کی کمان میں فوج آگے بڑھی۔ بالکل نزدیک پہنچنے پر یہودیوں نے پتھروں اور
تیروں کی بارش شروع کر دی۔ سنگلاخ فسیل کو توڑنے کی کوشش ناکام کے بعد واپس
ہوئے۔ دوسرے روز علم ابو بکرؓ کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے بھی صدر دروازہ توڑنے کی
کوشش کی مگر نہ ٹوٹا۔ ان کے علاوہ اور دیگر آزمودہ کار لوگوں کو بھی بھیجا گیا۔ جب ہم
میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک روز شام کے وقت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”کل میں اُس شخص
کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا“ صبح کو دفعۃً یہ آواز کانوں میں آئی کہ ”علم کہاں
ہیں؟“ موصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ آنحضرتؐ نے اپنا لعابِ دہن لگایا اور دعا فرما کر
علم ان کے سپرد کر دیا۔

یہودی اسلام یا صلح کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ اُن کو بھی اپنے بہادر مرتجب پر

ناز تھا جو ایک ہزار بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا اور القمص (شیر بے قرار) اس کا تخت گاہ تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس روز مسلمان بڑی پامردی سے لڑے اور صدر دروازہ توڑنے میں حضرت علیؑ کا میاب ہو گئے۔ حفاظتی دستہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ فصیل ولے جلدی جلدی نیچے اترے اور تلواریں کھینچ کر آمادہ پیکار ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مَرَحِب خود قلعہ سے رُجز پڑھا ہوا باہر نکلا:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرَ أَمِّي مَرَحِبٌ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مَجْرَبٌ

خبر جانتا ہے کہ میں مَرَحِب ہوں
سلاح پوش، دلیر اور تجربہ کار ہوں
مَرَحِب کے سر پر یعنی زرد رنگ کا مغفرا اور اس کے اوپر سنگی خود تھا۔ مَرَحِب کے جواب میں حضرت علیؑ نے یہ رُجز پڑھا:

أَنَا الَّذِي سَمَنْتَنِي أُمِّي حَيْدَرٌ
كَلِمَتِ غَايَاتِ كَرِيهِ الْمُنْظَرِ

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر و کھاتا
میں شیر نیستان کی طرح ہیبت و بد منظر ہوں
مَرَحِب بڑے طمطراق سے آیا، لیکن حضرت علیؑ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کو کاٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اتنا بڑا مانا ہوا پہلوان چشم زدن میں ختم؛ یہودی علیؑ کی کارگزاری سے بے حد خوفزدہ ہو گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح یہ ناقابلِ تسخیر قلعہ ۲۰ دن کے محاصرہ کے بعد فتح ہوا۔ اور مَرَحِب کے قاتل اور "القمص کے فاتح" یا "فاتح خیر" حضرت علیؑ ہی قرار پائے۔ اس قلعہ کے بعد تو صرف سلام رہ گیا تھا جو ریزرو فورس کے لیے تھا اور اوطیح، وغیرہ کا سارا علاقہ کیتبتہ درساہ (CAVALRY) تھا جس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ سب لشکرِ اسلام کے آگے جھک گئے!

① جنگ کے نتائج اور اثرات

• فتح کے بعد آنحضرتؐ نے سب کی جان بخشی کر دی کہ مال چھوڑ دیں۔ جسم کے کپڑوں کے ساتھ جہاں چاہیں چلے جائیں۔
② فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن یہود نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائے۔ ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور حضرت عمرؓ کی ملامت تک لیا ہوتا رہا۔

3 • خیبر کی زمین دو برابر حصوں میں تقسیم کی گئی۔ نصف حصہ بیت المال وغیرہ کے مصارف میں خاص کر لیا گیا۔ باقی نصف مجاہدین پر مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ فوج کی تعداد ۱۲۰۰ تھی۔ سوار ۲۰۰ تھے۔ سوار کو گھوڑے کے علاوہ پیدل سے دو گنا خلا۔ یعنی کل جائداد کے ۱۸۰۰ حصے کیے گئے۔ آنحضرتؐ کو بھی عام مجاہدین کے برابر حصہ ملا (فتوح البلدان) ایک قلعہ حضرت عمرؓ کے حصہ میں آیا۔ جسے آپ نے راہِ خدا میں وقف کر دیا۔

4 • صفیہؓ رئیسِ خیبر کی بیٹی تھی۔ ان کا شوہر بھی قبیلہ نضیر کا رئیس تھا۔ باپ (حجی بن اخطب) اور شوہر (دکنانہ بن الزبج) دونوں قتل کیے جا چکے تھے۔ آنحضرتؐ نے صفیہؓ کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا۔ اس لیے کہ پاسِ خاطر و حفظِ مراتب اور رفعِ غم کے لیے اس کے سوا اور کوئی بہتر تدبیر نہ تھی۔ صفیہؓ نے بھی اسلام قبول کر کے اسی طریقہ پر رضامندی دے دی تھی۔

5 • یہود کو اتنی مراعات دینے کے بعد بھی ان کا باغیانہ طرزِ عمل ملاحظہ فرمائیے۔ سلام بن مشکم کی بیوی (مرثبہ کی بھاری) زینبؓ نے آنحضرتؐ کی دعوت کی جس میں چند صحابہؓ بھی تھے۔ زینبؓ نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا، آنحضرتؐ نے تو ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا مگر دوسرے صحابی بشیر بن براہؓ پیٹ بھر کر کھا کر پلاک ہو گئے۔ زینبؓ قصاص میں قتل کر دی گئی۔

6 • مالِ غنیمت میں توراہ کے جیسے ملے وہ آنحضرتؐ نے یہودیوں کو واپس دلا دیے۔

7 • ۹۳ یہود مقتول ہوئے ۱۸/۱۵ مسلمان شہید ہوئے اور ۵۰ زخمی

8 • (دیکھیے نقشہ میں) بعد کامتِ ام وہ ہے جہاں آنحضرتؐ نے فتح کے بعد چند روز قیام کیا دیکھ بڑی مسجدِ نبویؐ (بعد میں بنی) اور وہ چٹان (الصخرة) بھی ہے جسے سترہ بنا کر رسولِ اکرمؐ نماز پڑھا کرتے تھے۔ (آج کل وہیں عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں)

9 • کسا خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کی قوت باسکل ٹوٹ گئی اور مشرکین کا ایک زبردست بازو جاتا رہا۔ بدر کے موقع پر ان کے طنز و غرور کا سبق پورے طور پر مل گیا؟

10 • کسا • تمام عرب کی نگاہیں اس جنگ کے نتیجے پر لگی ہوئی تھیں خیبر کی فتح سن کر سب حیرت زدہ ہو گئے! ساتھ ہی رنج و افسوس بھی ہوا خصوصاً اس لیے بھی کہ مسلمانوں کے قبضہ میں متعدد قلعے اور سیکڑوں مزلع میل کا رقبہ آ گیا تھا۔

11 • کسا • خیبر کی فتح کے بعد اسلام کی لگن اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام گویا زلف سے نکل آیا تھا۔

12 • کسا • اب جدید فقہی احکام پر عملدرآمد بھی شروع ہوا مثلاً بیخودار پر زندہ حرام، زندہ جانور حرام، گھریلو گدھا پھر حرام وغیرہ؛

دردن لاسر

نہری

آنحضرت کا مرکزی کیمپ

یہودیوں کے قلعے اور آظام

بہاڑ اور وادی

مختلن

زمین دوز پانی کا راستہ

چستو


وہ مقام جہاں آنحضرت نے فتح کے بعد چھ روز قیام کیا

قیام کیا

وادی الخمص

نہری جو اصرام کی طرف
آ رہی ہے

۱۵ بہاڑ ۱۰ھ



مختلن

قلعہ اور فصر اور وادی

مختلن

اس کے اندر ایسی نامی

حصن ابی

حصن البر

المنخفضة

حصن

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

حصن النبی

العموم

الصحرة

المنخفضة

الصحرة

المنخفضة

المنخفضة

المنخفضة

ابن ابی الحقیق

صیفیہ کامسکن اور

قضاة

کویت

کویت

کویت

کویت

کویت



غزوة وادی القریٰ اور فدک

محرم یا صفر ۳ھ

یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہ تھی، آنحضرتؐ نے جنگ خیبر سے فراغت کے بعد چند دن خیبری میں قیام کیا۔ وہیں ان کی یہ اسکیم بنی کہ بگے ہاتھوں ذرا اور شمال میں یہودیوں کی دو ایک لونی کے نبض کو بھی ٹٹول لیں پھر مدینہ واپس چلیں۔ تاکہ مزید شمال تک اس کے اثرات پہنچ جائیں۔ یہودیوں کی دوکانیاں تو نزدیک ہی تھیں۔ وادی القریٰ اور فدک اور سری تیماء کچھ دور پر تھی، (دیکھیے نقشہ نبول۔ جنگ ذی قعد) لہذا آپؐ صرف ۳۸۲ آدمیوں کو لے کر (رحمۃ للعالمین) بڑھ گئے اور ایک روز میں واپس ہو گئے۔

وادی القریٰ ایسی وادی تھی جہاں یہودیوں کی متعدد بستیاں (قرئی جمع ہے قریہ کی) تھیں۔ قدیم زمانہ میں یہاں عادی و ثمود آباد تھے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہودیوں نے یہاں آکر اپاشی کے ذریعہ کھیتی کے کام کو خوب ترقی دی اور ان کا یہ مخصوص مرکز بن گیا تھا۔ آنحضرتؐ کا مقصد لڑنا نہ تھا مگر یہودیوں کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے فوراً تیراندازی شروع کر دی۔ آنحضرتؐ کا محفل آپ کے غلام (حضرت مدعم بن) اتار رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ بہر حال جنگ شروع ہو گئی لیکن تھوڑے سے مقابلہ کے بعد یہودیوں نے سپر ڈال دی اور مصالحت چاہی۔ آنحضرتؐ نے صلح کر لی۔ اور ان کی زمین و مال وغیرہ خیبر والوں کی شرائط کے بموجب واپس کر دیا۔ (یہودیوں مقتول ہوئے) (رحمۃ للعالمین)

وادی القریٰ سے ذرا اور شمال میں فدک، کا مقام نہایت سرسبز و شاداب تھا۔ انگور کھجور اور دوسرے پھلوں کے باغات تھے چنانچہ سبزہ زار ہونے کی وجہ سے اس کا نام 'باغِ فدک' مشہور ہو گیا تھا۔ یہاں بھی یہودی آبلہ تھے۔ ان یہودیوں نے جنگِ خیبر میں اہل خیبر کو امداد دی تھی اس لیے انہیں خوف تھا کہ کہیں مسلمان ان پر یورش کر کے ان کے بالی بچوں کو تہ تیغ نہ کر ڈالیں۔ اس لیے فدک کے چند معزز یہودی خود آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے چونکہ انہیں کسی طرف سے امداد کی توقع نہ تھی اور اکیلے مسلمانوں سے مقابلہ بھی نہ کر سکتے تھے اس لیے اپنی اور اپنے بالی بچوں کی جان کی امان پر مصالحت کی استدعا کی آنحضرتؐ نے استدعا منظور کر لی۔ ان سے صرف زر نقد اور سامانِ عشرت لے لیا گیا۔ اس طرح فدک بغیر جنگ مغلوب ہو گیا ابھی آنحضرتؐ کا مقصود بھی تھا!

یہ تہماء عرب کے شمال مغربی حصے میں خیبر سے کچھ دور واقع ہے۔ یہاں بھی یہود قبل از ظہور اسلام رہتے تھے یہاں کا

یہودی شاعر سمو آل بن عادیہ صاحب الحصن، مشہور تھا، اور اسی کے ذریعہ تہماء کے یہودی تاریخ نگاروں نے اسلام معلوم ہوئی۔ بعد میں صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگِ خیبر کے وقت مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہ لوگ نہیں نکلے۔ نہ اس کی فکر کی خیبر کی شکست کے بعد وادی القریٰ اور فدک کے یہودی بھی آنحضرتؐ کے آگے سپر انداز ہو چکے تھے، اس لیے ان لوگوں نے بھی آنحضرتؐ سے (فالیابا ۹۷ھ میں) مصالحت کر لی۔ اور حزیہ دے کر اطمینان کی زندگی اسلام کے سایہ میں گزارنے لگے۔

ادائے عمرہ (شہ)

صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آنحضرتؐ مکہ میں آکر عمرہ ادا کریں گے اور ۳ دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس بنا پر خیبر سے واپسی کے بعد آنحضرتؐ نے اس سال عمرہ ادا کرنا چاہا اور اعلان کر دیا کہ سارے شرکاء حدیبیہ یہ سعادت حاصل کریں۔ شرط کے مطابق اسلئے جنگ دمکے سے ۸ میل پہلے ہی (چھوڑ دیے گئے۔ ۲۰۰ سواروں کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔

صحابہؓ کا جہم غفیر سا تھا۔ برسوں کی دیرینہ تمنا۔ اس لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ تھا۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے خیال خفا کو دور کرنے کی غرض سے آنحضرتؐ نے یہ حکم دے دیا کہ طواف کے پہلے تین پھیرے ایسے ہوں کہ لوگ اکڑ کر چلیں (جسے عربی میں "رمل" کہتے ہیں)۔ چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے۔

اہل مکہ اس پر شگوہ نظارے کی تاب نہ لاسکے اور ۳ دن کی شرط جیسے ہی پوری ہوئی۔ انہوں نے حضرت علیؓ کے ذریعہ کہلوا یا کہ "محمد سے کہہ دو کہ شرط پوری ہو چکی اب مکہ سے نکل جائیں" یہ سن کر بلا تامل آنحضرتؐ روانہ ہو گئے! اہل مکہ پر مسلمانوں کے سچے جوش، سادہ اور موثر طریق عبادت کا اور دیانت و امانت کا عجیب اثر ہوا۔

جب معاہدہ جب مسلمان واپس چلے گئے تو خالد بن ولید اور عمرو بن العاص دونوں اسلام کی طرف مائل ہو کر مع اپنے دوست عثمان بن طلحہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تینوں سیدھے مسجد نبویؐ میں پہنچے اور مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ آنحضرتؐ اور سبھوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا!

جنگِ موتہ

(جمادی الاولیٰ ۱۰۱ھ)

جنگ کا سبب صلح حدیبیہ سے قدرے اطمینان نصیب ہوا تو آنحضرتؐ نے تمام صحابہؓ کو جمع کر کے مشورہ کیا اور دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ قیصرِ روم، شہنشاہِ ایران، عزیزِ زمہر، بادشاہِ حبش، رومائے عرب و عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے!

• عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا حکمراں تھے ان میں ایک شمر قبیل بن عمرو غسانی قیصر کا ماتحت (گورنر) تھا۔ یہ عربی نمائندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمراں تھا۔ جس کا پایہ تخت بصری تھا جو آج کل خوران کہلاتا ہے آنحضرتؐ نے شاہِ بصری یا قیصرِ روم کے نام ایک خط لکھا تھا جسے مارث بن عیرلے کر گئے تھے شمر قبیل نے ان کو قتل کر دیا۔ مظلوم مارث کے قتل سے سفیروں کی بانیں خطرہ میں پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا اور ابھی سفارت کا کام بہت آگے تک کرنا تھا۔ اس لیے قصاص کے لیے قدم اٹھانا ناگزیر ہو گیا۔

• ویسے تو ہر جنگ میں یہی قاعدہ تھا کہ پہلے دعوتِ اسلام دی جائے۔ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں ایسا ہی حالے کر یہ سفیر گئے تھے۔

• اب تک اسلام کو عرب کے یہود اور مشرکوں سے سامنا تھا۔ لیکن اب عیسائی روپیوں کی طاقت اور سلطنت سے واسطہ تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ بروقت تادیبی قدم اٹھایا جائے

اور ان کی اصلی طاقت و قوت کا اندازہ بھی لگا لیا جائے۔

واقعات

چنانچہ ہم کی تیاری تو آنحضرتؐ نے کر دی مگر اس کی قیادت چونکہ خود نہیں کر رہے تھے اور خطرات بھی بہت تھے اس لیے خصوصی ہدایات کے ساتھ ۲ ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کر دیا۔ سپہ سالاری ملی تو زید بن عمارؓ کو لیکن ارشاد ہوا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفرؓ تیار رہنا اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہؓ بن رواحہؓ فوج کی کمان سنبھالیں پھر یہ ارشاد ہوا کہ حسبِ مصلحت پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ اظہارِ ہمدردی کے لیے اُس مقام پر بھی جائیں جہاں سفیرِ مارت بن عیمرؓ شہید ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ خود شیبۃ الوداع تک فوج کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے وہاں صحابہؓ نے پکار کر دعا کی کہ خدا سلامت اور کامیاب لائے! مدینہ کی نگرانی کے لیے خود اور بقیہ صحابہؓ ہزرہ گئے! رخصت کے وقت لشکر کو اس طرح مخاطب فرمایا: ”خدا کا نام لے کر خدا کی راہ میں شکرینِ خدا سے جنگ کرو۔ دیکھو غدر نہ کرنا۔ غل سے بچنا۔ بچے، عورت اور بوڑھے کو اور مندروں میں رہنے والوں کو قتل نہ کرنا۔ کھجور اور دیگر درختوں کو نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو نہ گرانے۔“

ادھر مدینہ سے فوج روانہ ہوئی۔ ادھر جاسوسوں نے طر حیل کو خبر دے دی عسائی حاکم اپنی کارروائی پر نادم تو کیا ہوتا۔ اُس نے مقابلہ کے لیے تقریباً ایک لاکھ فوج تیار کی اتفاق سے یہ خبر بھی اڑ گئی کہ قیصر روم (پہر قتل) عرب عیسائی قبائل — لخم، جذام، بحرہ و بلی وغیرہ کی بے شمار فوج لے کر مؤاب میں خیمہ زن ہے۔ (دیکھیے نقشہ)

اسلام کی فوج جب مؤتہ کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ۳ ہزار مسلمانوں کو لاکھوں کے دلِ یاد دل کا سامنا ہے۔ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کے پیغام کا بھی موقع نہ تھا۔ لہذا ۳ ہزار کی اقلیت نے ایک لاکھ کے گروہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت زید بن عمارؓ بر چھیاں کھا کر شہید ہوئے۔ حضرت جعفرؓ نے آگے بڑھ کر اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک دشمن نے اُن کا داہنا ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھال لیا۔ دوسرے دشمن نے دوسرا بازو بھی اڑا دیا۔ داسی لیے ان کا لقب ’ذوالجناحین‘ پڑ گیا تھا۔ ابنِ خلدون (دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چٹایا۔ عمر تو اُن کی صرف ۳۳ سال کی تھی مگر جوشِ جہاد اور شہادت کی

نہا میں تلواروں اور بڑھپھوں کے ۹ زخم کھا کر گڑے سارے زخم سینہ پر تھے لہشت پر نہیں۔

پھر عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھال مگر وہ بھی شہید ہو گئے!

اس فوج میں آنحضرت نے حضرت خالد کو بھی شریک کر دیا تھا۔ لہذا ایسے نازک مرحلہ میں حضرت خالد

بن ولید نے خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کی کمان سنبھال لی درجۃ للعالمین جلد دوم میں یہ بھی لکھا ہے کہ

اگر عبداللہ بن رواحہ نہ بھی مارے جائیں تو مسلمان کسی کو اپنے میں سے سردار بنالیں، اور ڈیڑھ دن

لی سخت مڈ بھیر میں اس بہادری اور ہوشیاری سے لڑے کہ دشمن کو زیر تو نہ کر سکے مگر مسلمانوں کی

فوج کو دشمن کی زد سے بچالائے! صحیح بخاری میں ہے کہ اس جنگ میں خالد کے ہاتھ میں مارتے مارتے

۸ تلواریں ٹوٹی تھیں۔ چنانچہ اسی بنا پر انہیں "سیف اللہ" کا خطاب عطا ہوا تھا!

• ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ فوج شکست خوردہ، اور فراری تھی لیکن صحیح بخاری

نتائج غزوة موتہ میں ہے کہ حضور نے از روئے وحی فرمایا کہ پھر اللہ کی ایک تلوار یعنی خالد سیف اللہ

نے مسلمانوں کے علم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ و بادل فتح اللہ علیہم

آرباب سیر اور اہل روایت، اور شراح حدیث اس غلبہ یا فتح کی تاویل و تشریح میں مختلف ہیں۔

• بہر حال حضرت خالد کی قیادت میں اتنے بڑے لشکر کے حملوں سے بچا کر بہ سلامت پیچھے آنا۔

یہی غلبہ ہے۔ چنانچہ واپسی پر مدینہ میں جب کسی نے فوج کو فراری کہا تو آنحضرت نے ان کو

قتل دی کہ نہیں فراری نہیں، بلکہ دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے پیچھے ہٹانے والے ہو۔

• آنحضرت کو اس مہم کے ذریعہ زبردست تجربہ ہوا جس سے آئندہ فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔

دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ بھی ہو گیا، اور اب آئندہ اس طرح کی مہم کے لیے پوری تیاری کرنے کا


موقع فراہم ہو گیا۔

• مسلمانوں کے ۱۲ آدمی شہید ہوئے۔ دشمن مقتولین کی تعداد معلوم نہیں۔

• خود رومی فوج کے ایک کمانڈر نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔

جس کی وجہ سے اسے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اور اسے قتل بھی کر دیا گیا لیکن اس واقعہ نے

آگے چل کر اپنا گل کھلایا۔



فتح مکہ

(۱۰ رمضان ۸۰ھ)

شمال سے باختر ہونے کے بعد جنوب کا مال لینا تھا؛ اور اللہ نے سبب بھی فراہم کر دیا۔

• صلح حدیبیہ کی رو سے قبائل کو آزادی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ
مکہ پر چڑھائی کا سبب | مکہ کی شمالی سرحد پر بدر کے مغرب تک آباد تھے، رسول اکرم
 کی طرف اور بنو بکر قریش کی طرف مل گئے تھے۔ معاہدہ کو ۲ سال بھی نہ ہوئے تھے کہ بنو بکر نے
 بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ قریش نے نہ صرف یہ کہ بنو بکر کو علانیہ اسلحہ
 سے مدد دی بلکہ مشہور سرداران قریش نے (جنہوں نے خود معاہدہ پر دستخط کیے تھے) راتوں
 کو سورتیں بدل بدل کر بنو خزاعہ پر تلواریں چلائیں یہاں تک کہ مجبور ہو کر خزاعہ نے حرم میں
 پناہ لی۔ لیکن وہاں بھی (جہاں خون بہانا حرام تھا) ان کا خون بہایا گیا، چنانچہ مظلوموں کے
 چالیس فتر سوار ایک خزاعی سردار کے ہمراہ فریاد لے کر آنحضرت کے پاس مدینہ پہنچے۔ اس
 خزاعی سردار نے ایک پروردنظم میں سارا ماجرا کہہ سنا یا جسے آنحضرت اس سن کر بہت ہی
 رنجیدہ ہوئے۔

• فوراً آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ۳ شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی منظور کی
 جائے۔ (۱) مقتولوں کا خون بہا دیا جائے (۲) قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔
 (۳) اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سردار نے قریش کی طرف
 سے تیسری بات منظور کر لی۔ یعنی یہ کہ حدیبیہ کا معاہدہ اب باقی نہیں رہا۔

● قاصد کے واپس چلے جانے کے بعد قریش بہت پھپھتائے اور انہوں نے ابوسفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کرا لائیں۔ لیکن مدینہ جا کر بھی تجدید نہ ہو سکی؟

واقعات | ماہ رمضان میں آنحضرتؐ نے چڑھائی کی تیاریاں کیں۔ اتحادی قبائل کے پاس بھی قاصد بھیجے کہ تیار ہو کر آئیں۔ چڑھائی میں یہ احتیاط کی گئی کہ مکہ والوں کو خبر نہ لگے اور حملہ اچانک ہو!

● غرضکہ ۱۰ رمضان ۶۱۰ء کو آنحضرتؐ دس ہزار جاں نثاروں کا آراستہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور قبائل عرب (جو حلیف بن چکے تھے) راہ میں آکر ملتے جاتے تھے (دیکھیے نقشہ ذی قریٰ)۔ مڑا نظر ان (وادئ فاطمہ) پہنچ کر (مکہ سے ایک منزل سے کم فاصلہ پر) لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ آنحضرتؐ کے حکم سے (جو حربی تدابیر میں سے ایک تدبیر تھی جسے آج کے دور میں 'کیمو فلا جنگ' (CAMOUFLAGING) کہتے ہیں) — دشمن کو اصلی حقیقت پر پردہ ڈال کر بظاہر ایسا پیش کرنا کہ وہ مرعوب ہو جائے) جب ہر فرجی نے الگ الگ آگ روشن کی تو اس لا تعداد الاؤ سے اہل مکہ کو اچانک علم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر جزاً بہت ہی بڑی تعداد میں مکہ کے قریب آپہنچا۔ دور سے دس ہزار چولہوں کی آگ روشن دیکھ کر قریش کے چھلکے چھوٹ گئے۔ داہنوں نے خیال کیا جتنے چولھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہی لوگ ہوں گے، ابوسفیان شکر کا اندازہ کرنے نکل پڑا۔ لیکن وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور آنحضرتؐ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ آپؐ نے فرمایا: "جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہ کی جائیگی۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔" متاثر ہو کر ابوسفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آنحضرتؐ نے اسے اپنی نگرانی میں اس وقت تک رکھا کہ بے بس ہو کر قریش اپنے شہر پر آنحضرتؐ کا قبضہ ہو جانے دے! (ڈاکٹر حمید اللہ)

● آنحضرتؐ نے حضرت عباسؓ سے ارشاد فرمایا کہ ابوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج کا منظر خود دیکھ لیں۔ اس نظارہ سے وہ بے حد مرعوب ہوئے۔

مکہ میں داخلہ کے لیے فوجی نقل و حرکت کی ترتیب | (دیکھیے نقشہ مکہ اور قرب و جوار، مکہ کی

وادی میں ہر طرف اونچے پہاڑ ہیں۔ ایک بڑا راستہ شمالاً جنوباً شہر میں سے گزرتا ہے۔ اور دو ذیلی راستے (ایک جھون کی طرف سے اور دوسرا کداء کی طرف سے) اُس میں آکر مل جاتے ہیں۔ ملے ہوئے فوج کا بڑا حصہ آنحضرتؐ کے ساتھ عام بالائی راستہ (یعنی معلات) کی طرف سے بڑھے گا۔ کچھ فوج حضرت الزبیر بن العوام کے تحت کیداء کی طرف سے بڑھائی جائے گی تاکہ وادی فاطمہ (مرانظران) کی راہ (جو ساحل کی طرف جاتی ہے) کھلی نہ رہ جائے۔ ایک اور دستہ جھون کے راستے سے بھیجا جائے۔ اور جھون ہی کے مقام پر اسلامی جھنڈا نصب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ جتدہ کا بحری راستہ بھی بند ہو جائے۔ اور خالد بن ولید کو حکم دیا گیا کہ وہ جنوبی زیریں حصے سے شہر کی طرف بڑھیں (یعنی امن والی راہ سے داخل ہوں)۔

اعلانِ امن اور اس کا جیت انگیز اثر | اس فوجی ترتیب کے بعد اس طرح اعلانِ امن کر دیا گیا کہ:

- اگر کوئی شخص ہتھیار ڈال دے اُسے قتل نہ کیا جائے۔
 - اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے۔ اُسے قتل نہ کیا جائے۔
 - اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے، اُسے قتل نہ کیا جائے۔
 - جو شخص ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے اُسے قتل نہ کیا جائے (ابوسفیان کا گھر جو ساری مزارحمتوں کا گڑھ تھا کس حکمت عملی سے آج امن کا گھر قرار دے دیا گیا؟)
- ایک طرف ناقابلِ مقابلہ زبردست فوجی قوت کا سربراہ چانگ آجانا اور کسی مددگار کو بلانے کا موقع نہ ملنا۔ دوسری طرف امن برقرار رکھنے کے لیے اس نرمی، رحم دلی کا اعلان اور خونریزی کو ختم کرنے والی ہدایات — بھلا کیسے لڑائی کی نوبت آتی؟ ابوسفیان پر اس کا نفسیاتی اثر پڑا اور آخری مرحلہ میں وہ خود آکر اپنے آدمیوں سے مقابلے کو بے سود بتانے لگا۔ چنانچہ تمام واقعات کی وجہ سے (جس میں آنحضرتؐ کی حکمت عملی ہی نظر آتی ہے) نوبت یہ آئی کہ قریش اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہتھیار نہ چلائیں اور خاموشی سے اپنے شہر پر آنحضرتؐ کا قبضہ ہو جانے دیا! [صرف جنوب کی طرف خالدؓ کے دستہ پر قریش کے ایک گروہ نے جب تیر برسائے اور مسلمانوں نے شہادت پائی تو خالدؓ نے مجبوراً حملہ کر دیا تھا اور لوگ ۱۳ لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔

خالد بنے باز پرس پر اس واقعہ کی حقیقتی خبر جب آنحضرتؐ کو ہوئی تو فرمایا: "قتلے الہی یہی تھی"

انوکھے انداز کا فاتحانہ داخلہ

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے الفاظ میں (عہد نبویؐ کے میدان جنگ) "دس سال کی شبانہ روز جسمانی اور روحانی کاوشوں کے بعد مکہ کا جلا وطن اب وہیں فاتحانہ داخل ہو رہا تھا" مگر کس انداز سے؟ این ہشام کے بیان کے مطابق۔ آپؐ کا علم سفید رنگ کا تھا اور پرچم سیاہ رنگ کا۔ سر پر مغر ڈھانکے ہوئے تھے اور اس پر سیاہ عمامہ بندھا تھا۔ سورہ "إِنَّا فَتَحْنَا" بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جس اونٹ پر آپؐ سوار تھے اس پر آپؐ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک اونٹ کی پیٹھ پر بار بار لگ جاتا تھا۔

آنحضرتؐ جب مسجد حرام (کعبہ) میں داخل ہوئے (۲۰ رمضان) تو سب سے پہلے آپؐ کے حکم سے تمام بت یا مجسمے (۳۶۰) توڑ ڈالے گئے۔ ان میں حضرت ابراہیمؑ، اسمعیلؑ کے مجسمے بھی تھے اور حضرت عیسیٰؑ کی تصویر اور دوسری رنگین تصویریں دیواروں پر سے مٹادی گئیں اور اس طرح اللہ کے گھر کو شرک کی آلودگی سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپؐ نے تکبیریں کہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیمؑ پر نماز ادا کی۔ بس یہ تھا فتح کا انوکھا جشن، جسے دیکھ کر مکہ والوں کی آنکھیں کھل گئیں، نہ شان و شوکت کا اظہار ہے، نہ غرور و تکبر کی باتیں۔ بلکہ انتہائی عاجزی اور شکر کے ساتھ یہ اپنے خدا کے سامنے جھکے جاتے ہیں اور اسی کی حمد اور تکبیر میں مست ہیں۔ کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں۔ دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے!

تکبیل فتح کا رسمہ

خطبہ ارشاد فرمایا:

"اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں سن لو تمام مفاخر، تمام پرانے قتل اور خون کے بدلے اور تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے اہل قریش! اب خدا نے جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر کرنا مٹا دیا۔ تمام لوگ آدمؑ کی نسل سے ہیں اور آدمؑ مٹی سے بنے تھے۔"

پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی :
 "لوگو! میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنا کے
 تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لے جاؤ۔ لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو
 زیادہ پرہیزگار ہے" (المحرات)

جس مجمع کے سامنے یہ خطبہ دیا گیا اس میں قریش کے بڑے بڑے سرکش موجود تھے۔ وہ
 بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت

کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائدادوں پر قبضہ کر لیا تھا اور
 وہ بھی تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کو گالیاں دی تھیں، آپؐ کے راستے پر کانٹے بچھائے تھے،
 آپؐ پر کوڑا کرکٹ کے ٹوکڑے ڈالے تھے یہاں تک کہ آپؐ کے قتل کے ڈر پے ہوئے تھے آنحضرتؐ

کے چچا حمزہؓ کے وہ قاتل بھی تھے جو ان کا کلیجہ نکال کر چبائے تھے اور وہ بھی تھے جنہوں نے محض
 ایک خدا کی بندگی کے اعلان پر بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ آنحضرتؐ نے ان سب کی طرف

دیکھا اور پوچھا: "کہو آج تم جانتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ فوراً
 بول اٹھے کہ "آپ جو انوں کے شریف بھائی، اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں"۔ سن سکن کر

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: "جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔"
 اس غیر معمولی برتاؤ سے بڑے بڑے سرکش متاثر ہو کر تابع ہو گئے اور انہوں نے اعلان

کر دیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جو دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے۔
 یہ تھا فتح مکہ کا نقشہ! یہ فتح زمین جائداد اور مال پر فتح نہ تھی بلکہ دلوں کو جیتنا مقصود


تھا اور یہی بڑی فتح تھی! دنیا کی تاریخ کیا کسی ایسی فتح کا ذکر کر سکتی ہے؟
 مکہ معظمہ میں آنحضرتؐ کا قیام ۱۵ دن تک رہا۔ روانگی کے وقت حضرت معاذ بن جبلؓ

کو آپؐ اس خدمت پر مقرر کرتے گئے کہ لوگوں کو اسلام کے مسائل اور احکام سکھائیں۔

ترا نظر ان دہ مکہ سے ایک منزل میں

نقشہ مکہ پر چٹھائی

دہ اور قرب و جوار کے راستے



جنگِ حنین (اوطاس) [شوال ۶۰۰ھ]

اور

محاصرہ طائف [شوال و ذیقعدہ ۶۰۰ھ]

جنگ کی ضرورت | مکہ کی حدود سے قریب کے علاقوں میں ہوازن اور ثقیف دو ایسے طاقتور اور جنگجو قبیلے تھے جنہیں شروع ہی سے اسلامی تحریک سے نفرت تھی! ابراہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی تو ایک ثقفی ہی نے رہنمائی کی تھی؛ فتح مکہ کے قبل ہی سے یہ لوگ بدوی قبیلوں کو اسلام کے خلاف ابھار رہے تھے۔ یہ قبیلے کسی دوسرے کی ماتحتی کے لیے تیار نہ تھے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ اسلام کی کامیابی اور فتح مکہ کی خبر سن کر یہ بے چین ہو گئے۔ اور اس انداز سے سوچنے لگے کہ اگر ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں تو طائف کے باغات اور املاک سب ہمارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بنی مضر، بنی ہلال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور اسلام کے خلاف ایک ملا جلا جتھا تقریباً ۱۰ ہزار بہادروں کا، لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی حنین میں آ کر ”
(رحمۃ للعالمین)

اس کی خبر جب آنحضرتؐ کو (مکہ میں) پہنچی تو آپؐ نے تصدیق کرائی۔ اور پھر مجبوراً لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ رسد اور سامان و اسلحہ کے لیے قرض کی ضرورت محسوس ہوئی تو مکہ ہی میں آنحضرتؐ نے دس ہزار درہم (بطور قرض) اور ایک سٹوزرہیں دستکار حاصل کیں۔

جائے وقوع سے متعلق غلط فہمیاں | مختلف روایتوں کی بنا پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی جغرافیہ داں نے اس کی تعیین کی

طرف بھی صحیح دھیان نہ دیا۔ سیرۃ النبی جلد اول میں زرقانی کے مطابق درج ہے کہ "خین، حنین اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، ذوالحجاز عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے ۳ میل پر ہے۔ اس مقام کو 'اوطاس' بھی کہتے ہیں۔" اس پر سید سلیمان ندوی نے یہ نوٹ لگایا ہے کہ "ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ 'خین' مکہ سے ۳ دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اور 'اوطاس' کے متعلق ما فظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن اسحاق کی تصریح کے مطابق یہ 'حنین' کے علاوہ دیا ہو سکتا ہے۔" میں دوسری وادی کا نام ہے۔"

● ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی کئی بار جائے وقوع کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر ایک ایسے نتیجے پر پہنچ سکے کہ رہنمائی مل سکے! انہوں نے 'عہد نبوی' کے میدان جنگ میں لکھا ہے کہ "انگرا اور طائف کے بیچ میں 'خین' کو ڈھونڈنا ہی غلطی ہے۔" اور 'اوطاس' نام کا پہاڑ یا وادی نہ تو مکہ اور طائف کے بیچ میں کہیں واقع ہے اور نہ طائف کے آس پاس کسی جگہ ہے۔ سلطان عبدالحمید خاں ثانی نے حجاز ریلوے لائن کے لیے انجینروں سے نقشہ تیار کرایا تھا۔ اس نقشہ میں مقام 'اوطاس' طائف کے شمال مشرق میں کوئی ۳۰/۴۰ میل پر ہونا بتایا گیا ہے۔ ہوازن کا قیام یہاں بھی موجود ہے اور یہ طائف سے ۳ دن کے فاصلہ پر اسی سمت میں رہتا ہے۔ ہوازن کا حجاز ریلوے کے نقشہ میں بتایا گیا ہے۔

● محمد علی لاہوری نے انگریزی کتاب (MUHAMMAD THE PROPHET) میں لکھا ہے کہ "ہوازن مکہ کے مشرقی پہاڑیوں کے ڈھلوان پر آباد تھے۔"

صحیح تعبیر کی کوشش | مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں دو نقشے تیار کر دیے گئے ہیں تاکہ ان سے کسی قدر رہنمائی مل سکے۔ مکہ سے شمال مشرق کی طرف نظر دوڑائیے تو کچھ دور ایک میدان نظر آئے گا جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ہر دو پہاڑی کے بیچ تنگ راستے ہی کھدے کھلاتے ہیں، اور یہ درے اُس میدان کو گھیرے ہوئے ہیں ان پہاڑیوں سے اور آگے اسی سمت بڑھیں تو وہ علاقہ نظر آئے گا جہاں بنو ہوازن آباد تھے اور اب بھی رہتے ہیں! پھر ایک بار مکہ سے جنوب مشرق کی طرف نظر دوڑائیے تو طائف نظر آئے گا۔ اور اگر طائف سے شمال مشرق کی طرف دیکھیں تو وہی پہاڑیوں سے گھرا ہوا میدان نظر آئے گا اور اُس سے آگے

بنو ہوازن کا علاقہ۔

بنو ہوازن ردا کی فن میں ماہر تھے خصوصاً تیر اندازی میں یکتا و ممتاز تھے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ لوگ تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے اس معرکہ میں ثقیف و ہوازن کے تمام قبیلے ساتھ تھے۔ ۴ ہزار بہادر مع ساز و سامان کے قبیلہ کے تیس سالہ جوان رئیس اعظم دالک بن عوف نضری کی سواری میں لڑائی کی تھی روانہ ہوئے۔ اس سردار نے ایک ہوشیاری کی۔ اس نے مشیر کی حیثیت سے عرب کے مشہور و معروف شاعر اور مجرب کارڈرید ابن الصم کو جو قبیلہ جشم کا سردار تھا اور غائبانہ کانسب بکر بن ہوازن تک بھی پہنچا ہے، مدعو کر لیا تھا۔ وہ ۱۰۰ برس کا مٹھرا اور جسمانی لحاظ سے معذور تھا پھر بھی اسے پلنگ پر لے گئے۔ اس لیے کہ اس کی رائے و تدبیر کو مستند سمجھا جاتا تھا اور اس پر سارے عرب کو اعتماد تھا۔ ۴ ہزار کا لشکر جب تذکرہ بالا پہاڑیوں کے سامنے پہنچا تو اس نے دریافت کیا، "یہ کون سا مقام ہے؟" لوگوں نے کہا، "اوطاس"۔ بولا، "ہاں یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس کی زمین نہ سخت ہے نہ اس قدر نرم کہ پاؤں و حنس جائیں۔"

بنو ہوازن کا خاص جوہر
تیر اندازی تھا، اور اس کو

میدان جنگ کے کلیدی مقامات پر ہوازن قابض

نایاں کرنے کے لیے یہ میدان بہترین تھا۔ جس طرح آنحضرتؐ نے خود جنگِ بدر میں تیروں کی بارش سے گھوڑوں کو بچا دیا تھا اور پھر جنگِ اُحد کے موقع پر جبلِ عینین پر تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیروں کی بارش سے میدانِ جنگ تک پہنچنے سے روکا جاسکے۔ یہاں جبلِ اوطاس کے درے اور پربت چوٹیوں کی موجودگی تھی، جس طرح شکاری اپنی گھات میں بیٹھ کر شکار کا انتظار کرتے ہیں، اور گھات کا مقام ذرا اونچی جگہ ہوتا ہے تاکہ شکار کو باسانی قابو میں لایا جاسکے۔ بالکل یہی پوزیشن یہاں تھی۔ اس منتخب میدان کے چاروں طرف دشوار دروں اور پہاڑیوں کے ڈھلوان پر چیدہ چیدہ تیر اندازوں کو بٹھار دیا گیا۔ حربی لحاظ سے تمام کلیدی مقامات پر تیر انداز دستے قابض ہو چکے تھے۔

آنحضرتؐ کی فوج کی بہتیت اور میدان میں داخلہ | شوال ۶۱۰ء میں اسلامی لشکر کی قوت ۱۲ ہزار

ہو گئی تھی۔ مقدمۃ الجیش خالد بن ولید کی کمان میں تھا جس میں زیادہ تر نو مسلم نوجوان تھے۔ تاہم یہ کار
زرہ تک پہنچ کر نہیں آئے تھے؛ اسی میں دو ہزار طلقاء بھی تھے یعنی وہ لوگ جو اب تک
اسلام نہیں لائے تھے اور تربیت میں کورے تھے (طلقاء کے بارے میں تو طبری نے لکھا ہے کہ اہل مکہ
اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ دل سے نہ تھے۔ کچھ لوگ محض مالِ غنیمت کے لیے اور اس عرض سے
شریک ہوئے تھے کہ میں حالت جنگ میں دھوکہ دیں رخری نقطہ نظر سے ایک طرف تو یہ داخلی کمزوری
فوج میں تھیں دوسری طرف میدان جنگ میں بھی مجبوراً آنحضرت کے لشکر کو انہیں دشوار گزار
دروں اور پڑتلیج وادیوں سے گزرنا پڑا جہاں ہوازن پہلے سے اکٹھا ہو چکے تھے۔ مجبوراً اسلامی
لشکر اس شکار گاہ میں داخل ہوا۔

داخل کمزوریوں کے باوجود ۱۲ ہزار کی تعداد جب اس مقام
پر پہنچنے والی تھی تو کثرتِ تعداد پر بعض صحابہؓ کی زبان سے

میدان جنگ کا حشر

بے اختیار یہ الفاظ نکل پڑے کہ "آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے؟" غزوہ کے یہ الفاظ باگاہ
میں کیسے پسند کیے جاتے؟ اس جنگ کے تقریباً ۱۲/۱۳ مہینے بعد جب قرآن میں اسی جنگ کے
متعلق آیات نازل ہوئیں تو اللہ کا تبصرہ اس طرح سامنے آ گیا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ
كَثِيرَةٍ ۗ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ
أَخْبَتُكُمُ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ
مُدْبِرِينَ ۗ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
مَسْكِنَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَّهُمْ
تَرَوُهَا

(التوبة: ۲۵، ۲۶)

اس تبصرہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ دو مراحل سے گزری — پہلے مرحلہ میں کثرتِ تعداد کچھ

نہ آئی اور مسلمانوں کو پیچھے بٹنا پڑا۔ پھر دو رے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسولؐ اور مومنوں پر تسلی نازل ہوئی اور غیبی مدد آگئی!

صبح کے وقت ابھی خوب اُجالا بھی نہیں ہوا تھا آنحضرتؐ اپنا لشکر لے کر میدانِ جنگ میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی ہر طرف سے تیروں کی بوجھاڑ شروع ہو گئی۔ مقدمتہ الجیش کی کزویا اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ بلا زورہ والے غیر تربیت یافتہ رضا کار لا محالہ بے قابو و سراسیمہ ہو کر پیاہوئے انہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی سراسیمگی پھیل گئی، او قدم اکھڑنے لگے۔ بلکہ کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بھگدڑ میں بھی آنحضرتؐ نہایت اطمینان کے ساتھ میدانِ جنگ میں جھے رہے۔ چاروں طرف سے حملہ آوروں کو بڑھتے اور اپنے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو بے نظیر شجاعت و استقامت کا نمونہ پیش کیا۔ اپنے چہرے سے اتر کر دلگام ابوسفیانؓ سنبھالے رہے! فرمایا:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

میں نبی ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں

پھر آپؐ کے حکم پر حضرت عباسؓ نے بلند آواز سے مہاجرین اور انصار کو بلانا شروع کیا: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ (اگر وہ انصار اور اصحاب الشجرۃ (بیعت رضوان والے) اس پرسوز آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھسان کی وجہ سے مڑنے سکے، وہ گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب فوج کی ترتیب از سر نو کی گئی۔ انصار مہاجر کو آگے بڑھایا گیا۔ آنحضرتؐ کی ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا۔ ثقیف کی ایک شاخ (بنو مالک) جم کر لڑی لیکن ان کے ۷۰ آدمی مارے گئے۔ دشمنوں کی فوج میں ابتری پیدا ہو گئی، اور وہ دو حصتوں میں منتشر ہو گئی۔

۱) ایک حصہ کو لے کر (جس میں جنگی مرد تھے) مالک بن عوف طائف میں جا کر پناہ گزیں ہوا۔

اور (۲) دوسرے بڑے حصے کو (جس میں ان کے اہل و عیال تھے اور زر و مال مویشی)

ذرید ابن الصم لے کر اوٹاس کی گھاٹی میں جا چھپا۔ جنگ کے میدان میں بال بچوں کو ساتھ

لانے پر ذرید ابن الصم نے ہی اعتراض کیا تھا لیکن اُسے مالک بن عوف نے نظر انداز کر دیا

تھا۔ اور اب یہی بال بچے ان کے لیے مصیبت بن گئے تھے۔

اب آنحضرتؐ نے ابو عامرؓ اشعری کے ماتحت تھوڑی سی فوج دے کر اوطاس کی طرف روانہ کیا اور خالدؓ کو مقدمتہ الجیش کے طور پر پہلے سے طائف کی طرف روانہ کر دیا، آنحضرتؐ کی حکمت یہ تھی کہ اوطاس والے ہوازن کسی طرح طائف کی مدد میں نہ پہنچ سکیں!

اوطاس میں ابو عامرؓ اشعری ڈرید ابن الصمہ کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے تو گمان ابو موسیٰؓ اشعری نے سنبھالی۔ ڈرید مارا گیا۔ اور دشمن کے اہل و عیال اور زر و مال مویشی پر قبضہ کر لیا گیا۔ ۲۴ ہزار اونٹ، ۴۰ ہزار بیگیاں، ۴ ہزار اوقیہ سونا (ایک اوقیہ = ۱۰ روپے۔ اس لیے ۴۰ ہزار روپے کی مالیت ہوئی۔ سیرۃ النبیؐ جلد اول ص ۶۲) اور چھ ہزار عورتیں اور بچے ہاتھ لگے۔ درجۃ للعالمین، حنین کے مالِ غنیمت اور اسیرانِ جنگ کے متعلق آپؐ نے حکم دیا کہ جبرازہ میں محفوظ رکھے جائیں اور خود اطمینان کے ساتھ نخلہ سے قرن المنازل ہونے ہوئے پہاڑی گھاٹیوں سے گزر کر مقامِ لہجہ پر پہنچے، جو طائف سے مشرق جنوب میں تقریباً ۶ میل پر ایک مشہور جگہ تھی۔ سب سے پہلے لہجہ کی کڑھی (اظم) کو منہدم کر دیا جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ نے ابن ہشام کے حوالہ سے بیان کیا ہے (دعوتِ نبویؐ کے میدانِ جنگ) اور آگے بڑھ کر فیصل کے دامن میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اوطائف کو ایسے رخ سے گیرا جدرہ سے ان کو گمان بھی نہ تھا!

• میدانِ جنگ کے انتخاب میں ہوازن اپنے ہمراہ ڈرید ابن الصمہ کو حنین کی وجہ تسمیہ لے کر مکہ کی سمت اُس راہ سے چلے جس پر وہ معمولاً ہمیشہ گھومتے رہے

ہوں گے۔ جب اُس جگہ پہنچے تو ڈرید ابن الصمہ کے اِس سوال پر کہ "یہ کون سا مقام ہے؟" لوگوں نے جواب دیا "اوطاس" تب وہ بولا: "ہاں یہ مقامِ جنگ کے لیے موزوں ہے۔" اِس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جزایانِ حنین سے "حنین" کسی مقام کا نام نہیں تھا۔ نہ جبلِ اوطاس کی وادی ہی کا۔ اور اگر اِس مقام کا کوئی معروف نام تھا تو "اوطاس" ہی تھا جس کی تصدیق حجازی لوگ لائن کے نقشہ سے بھی ہوتی ہے۔

• "حنین" کا مقام باوجود تلاش کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ نے محقق کو یہی بات نہ آیا۔ "اوطاس" ہی آیا۔

• مگر حنین کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جو ایک قابلِ اعتماد اور مستند بات ہے سورۃ

التوبہ کے الفاظ یہ ہیں: "لَقَدْ نَصَّ كَمَا اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ لَوْ مَحْنَنَ"۔ پڑھ کر

یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ "حنین" کسی مقام کا نام نہیں ہے۔ ورنہ "مَوَاطِنَ" کے بعد "مَوَاطِنَ" کے بجائے "یَوْمَ" کا لفظ آیا ہے، اور "یَوْمَ" سے "ایام العرب" جنگہائے عرب کے لیے معروف ہے۔ اس لیے صرف اتنی بات قرآن سے صاف ہوتی ہے کہ "حنین کی جنگ" یا "حنین کا دن"!

• یہ جنگ اس حیثیت سے منفرد تھی کہ آنحضرتؐ کو ایسی زبردست تیروں کی بارش کا سابقہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، جس طرح احزاب کے لیے خندق تھی ویسے ہی آنحضرتؐ کے لیے تیروں کی یہ بارش تھی۔ غور کیجیے صبح کے سنائے میں جب اوطاس کے دروں سے گزر کر آنحضرتؐ کا لشکر وادی میں پہنچا ہوگا اور دفعۃً ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہوگی تو ہوازن کے اس مسلسل و پیہم عمل سے کیا تیر پھینکنے والی کانوں سے تیر چھوٹنے وقت کوئی آواز نہ نکلتی رہی ہوگی؛ کمان سے تو حقیقتاً آواز نکلتی ہے اور زور سے کھینچنے والوں کے ہاتھوں اس کی آواز تیز تر ہوتی ہے۔ وادی میں تو یونہی آواز بازگشت پیدا ہوتی ہے اور ڈہری ہو جاتی ہے! جب تیر کمان کی آواز اور شور اس وادی میں گونجنے لگی ہوگی تو تصور کیجیے وہ آواز کیا اور کیسی رہی ہوگی جس کا سابقہ پہلی بار ہوا!

المفردات فی غریب القرآن (امام راغب اصفہانی)، قَوْسٌ حَنَّانَةٌ۔ إِذَا رَنَّتْ

عِنْدَ الْإِنْبَاصِ = تانت کھینچ کر تیر چھوڑنے کے وقت کمان سے جب آواز نکلے۔

القاموس: الْحَنَّانَةُ - الْقَوْسُ وَالْمَتَصَوِّتَةُ مِنْهَا. وَقَدْ حَنَّتْ، وَأَحْنَأُ صَاحِبَهَا =

کمان اور اس سے نکلنے والی آواز۔ کمان سے آواز نکلی، اور کمان والے نے آواز نکالی۔

تاج العروس: الحنّان من الشہام السدی إذا دبر بالانامل = تیر کمان کے لیے بھی

آواز دینے والا تیر بھی! الحنّان کہلاتا ہے جب انگل کے ساتھ تیر بھیچے بٹا کر چھوڑا جائے۔

مندرجہ بالا حوالوں سے معلوم ہوا کہ کمان اور تیر دونوں کی آواز کے لیے 'حنّ' (ح. ن. ن.)

کے مشتقات استعمال ہوتے ہیں۔

"وَالْحَنَّانَةُ - الْقَوْسُ، اِسْمٌ لِأَعْلَامٍ؛ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - قَالَ ابْنُ سَيِّدَةَ:

وَحَنَّانٌ لِأَنَّ الْقَوْسَ تُسَمَّى حَنَّانَةً. إِنَّهَا هِيَ صِفَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهَا غَلْبَةُ الْأِسْمِ -

فَإِنْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَرَادَ هَذَا وَإِلَّا فَقَدْ أَسَاءَ التَّعْيِيرَ“ (تاج العروس)۔ یہ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ لفظ 'حَاثَّة' اسم ہے۔ علم (کمان کا معین نام) نہیں ہے۔ ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ 'حَاثَّة' اپنی اصلیت کے اعتبار سے اسم نہیں ہے۔ بلکہ وہ صفت ہے لیکن اس پر اسمیت غالب آگئی ہے۔ چنانچہ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی اسم کہنے سے یہی مراد ہے کہ اس پر اسمیت غالب آگئی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اصلیت میں اسم ہے تو ان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے)۔

عربی گرامر کی رو سے 'علم' اسم معرفہ ہوتا ہے اور معین ہوتا ہے۔ لہذا 'حَاثَّة' کمان کا معین نام نہیں ہے بلکہ اس کی آواز 'حَیْج' کی صفت کی وجہ سے اسے یہ نام مل گیا! "جس اسم سے چھوٹائی کا مفہوم ظاہر ہوتا ہو اس کو تصغیر یا اسم تصغیر کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے اسم تصغیر 'فَعِيل' کے وزن پر آتا ہے۔ اسم تصغیر سے جس طرح چھوٹائی کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے اسی طرح اس سے محبت یا حقارت کے جذبات بھی ظاہر کیے جاتے ہیں"۔

دعویٰ اردو بول چال، از پروفیسر مخدوم صابری ایم اے۔ (لاہور)

یہی بات ہمیں 'اساس عربی' (از پروفیسر نعیم الرحمن آباد) میں بھی ملتی ہے۔

مندرجہ بالا گرامر کے قاعدہ سے 'حَیْج' سے اسم تصغیر 'حَیْن' بنا۔ جس کے مفہوم میں محبت یا حقارت دونوں آسکتے ہیں۔ لیکن جنگِ حنین کے روز آنحضرتؐ کو ماہر تیر اندازوں سے زبردست مورچہ لینا پڑا تھا، اور میدانِ جنگ میں کچھ دیر کے لیے تو سوائے تیر و کمان کی آواز کے اور کچھ نہ تھا۔ پوری وادی کمانوں کی آواز اور آوازِ بازگشت سے گونج گئی۔ چونکہ تیروں کی بارش سے آنحضرتؐ اور ان کے فوجیوں کو سخت ترین تکلیف پہنچی تھی یہاں حقارت ہی کا مفہوم اس اسم تصغیر میں لیا جائے گا۔ اور تاریخ اسلام میں جب 'یوم حنین' کا ذکر آتا ہے تو وہی حقارت کا سماں سامنے آجاتا ہے! قرآن کا اسلوب بھی ملاحظہ ہو۔ مثلاً "يَوْمَ الْفُصْلِ" کے لیے "يَوْمٌ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ" (النساء) کہا گیا اور اثرات سامنے آگئے۔ اسی طرح سورہ 'القارعة' میں ۳ مرتبہ 'القارعة' کو دہرانے کے بعد اثرات بیان کر دیے گئے۔ کہیں صفت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو موصوف کی شناخت کے لیے بعض صفت ہی کا بیان کر دینا کافی سمجھا گیا۔ مثلاً کشتی نوح

کے لیے "ذات الخواج و دسیر" (تختوں اور کیلوں والی) اس اسلوب کی مناسبت سے اس قابل یادگار دن کے حادثہ میں تیر و کمان کی آواز ہی غالباً صفت تھی۔ اس لیے موصوف 'یوم' کے لیے "خین" بالکل موزوں ہے۔

محاصرہ طائف طائف تقریباً ۳ ہزار فیٹ کی بلندی پر ایک پلیٹو ہے۔ بعض قدیم محلے اب بھی باقی ہیں جو وادی وُج سے سیراب ہوتے ہیں۔ عمرو بن العاص کا ایک باغ طائف میں قسح ۶ سے ۳ میل کے فاصلہ پر تھا۔ ندی تو برسات کے علاوہ دوسرے دنوں میں خشک رہتی ہے مگر پانی کے متعدد چشمے ہیں جن سے باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں پوری آبادی وُج و کھلاتی تھی (یعنی بے پانی کی وادی) ایرانی انجینروں کی مدد سے آبادی کے ایک مسلح حصے کو ایک فصیل کے ذریعہ گھیر لیا گیا تھا۔ اسی گھیرے کی وجہ سے اسے 'طائف' کا نام مل گیا تھا۔ اور اس کی تعمیر کی وجہ سے یہ ایک نہایت محفوظ مقام بن گیا تھا۔

یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا شجاعت میں ممتاز اور قریش کا ہمسر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، اور غیلان بن سلمہ نے جریش میں جا کر قلعہ شکن آلات کے بنانے اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ (طائف کے جنوب میں کچھ فاصلے پر یمن کی سرحد میں جریش ایک فصیل دار محفوظ شہر تھا جہاں یہودیوں کی خاص آبادی تھی جیسا کہ خود طائف میں بھی تھی اور غالباً آلات کی صنعت انہیں یہودیوں کی زیر نگرانی قائم تھی) طائف کے قلعہ میں لڑائی کا پورا سامان تھا، اور میدان خین سے شکست خوردہ فوج کا جو حصہ مالک بن عوف کے تحت طائف میں آکر پناہ گزیں ہو گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے قلعہ بند ہو کر مدافعت کی تدبیریں شروع کر دیں۔ مرمت طلب حصوں کی مرمت کی گئی، سال بھر کا رسد ہتیا کر لیا گیا۔ چاروں طرف منجیق نصب کر دی اور اہم جگہوں پر تیر انداز متعین کر دیے گئے اور وافر پانی کا ذخیرہ فراہم کر لیا گیا۔

آنحضرت نے طائف کی فصیل کے سایہ میں پڑا اور ڈال کر سب سے پہلے محاصروں کا جائزہ لیا۔ اخیر کے مقام پر قلعہ بند یہودیوں کے قلعوں کے کئی محاصروں کا تجربہ حاصل کر چکے تھے اور یہودی محاصروں کے ذریعہ ان کے قلعہ شکن آلات وغیرہ سے نہ صرف باخبر ہو چکے تھے۔ بلکہ حصن صعب

اور الشق میں غنیمت کے طور پر حاصل شدہ قلعہ شکن آلات کو حصن البر کے شدید مقابلہ کے وقت استعمال بھی کر چکے تھے باب اس دوسری بڑی تجربہ گاہ کے لیے آنحضرتؐ نے اپنے چند قابل کاریگروں کو حربی آلات کی عمل تربیت لینے کے لیے مجزش روانہ کر دیا۔ یہ لوگ چند ہی دنوں میں ان آلات کے استعمال کا طریقہ سیکھ کر واپس آگئے۔ ہر پہلو سے مناسب اقدامات کر کے محاصرہ شروع ہو گیا۔

آلات جو محاصرہ میں استعمال ہوئے

(۱) منجیق؛ گوپھن (SLING) فلاخن (CATAPULT) ایک ایسا آلہ جس سے پتھر پھینکا جاتا ہے۔


(۲) عزادہ؛ یہ آلہ بھی پتھر اور دوسری چیزیں پھینکنے میں استعمال ہوتا تھا جو قلعہ شکن لوگوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ (عزادہ سے بمعنی پتھر اور پھینکنا) یہ بھی گویا (CATAPULT) تھا۔

(۳) ضبور؛ لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی جیسی چیز جس پر کھال منڈھی جاتی تھی اور اس کے اندر فوجی داخل ہو کر قلعہ کے قریب پہنچ سکتے تھے اور پھر دیوار کو منہدم کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ یونان ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں نے لکڑی کا ایک بڑا گھوڑا تیار کیا تھا جسے وہ دار پلیٹ فارم پر نصب کر کے گھسیٹ کر ٹرائے لے گئے تھے اور شہر میں کھڑا کر دیا تھا۔ ٹرائے والوں نے اسے کھیل تماشہ سمجھا اور دیکھ کر ٹال دیا۔ لیکن رات کی تاریکی اور ستائے میں گھوڑے کے پیٹ سے نکل کر مسلح فوجیوں نے حملہ کر دیا۔

(۴) دباہ؛ ضبور ہی کے آئیڈیا کا ایک زیادہ ترقی یافتہ حربی آلہ تھا جس میں لکڑی کا ایک ایسا بئرج ہوتا تھا جس کے اوپر تلے کسی درجے ہوتے تھے اور یہ بئرج ایک پیسے دار پلیٹ فارم پر نصب کر دیا جاتا تھا۔ بئرج کو محفوظ بنانے کے لیے اکثر اوقات چمڑے سے ڈھانکے تھے اس میں سنگ اندازوں، تیر اندازوں اور لقب زونوں کو بٹھا دیا جاتا تھا اور قلعہ کی دیوار میں لقب لگانے کے آلات بھی رکھ لیے جاتے تھے۔ اس پورے متحرک سیٹ (MOBILE SET) کو ڈھکیلتے ہوئے قلعہ کی جڑ میں پہنچ کر دیوار توڑتے تھے، اور تیر اندازی بھی اندر سے کرتے تھے۔

سنگ اندازی بھی۔ ازمنہ وسطیٰ (MIDDLE AGES) میں اس طرح کے آرہ کو (BATTERING RAM) کہا جاتا تھا۔ گویا آج کے ٹینک کی ابتدائی شکل تھی! قبل مسیح کے زمانہ میں یہ دَبَابہ ہو
ضُبُورِ اشوری بھی اپنی جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔
قلعہ کی دیوار

(BATTERING RAM)



شکل دَبَابہ
(مصروف کار)

دورانِ محاصرہ | محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ محصورین مدافعت کی تدبیروں سے اچھی طرح واقف تھے۔ آنحضرتؐ کی طرف سے منجنيق اور عرّادہ کے استعمال سے انہیں کوئی خاص نقصان نہ تھا۔ نیچے سے پتھر پھینکے جاتے مگر اوپر والے فصیل کی آڑ میں محفوظ ہو جاتے! جب ضُبُورِ دَبَابہ قلعہ کی جڑ میں پہنچے اور کوشش کرتے کہ دیوار میں نقب لگائیں تو ان پر گرم سلاخیں اوپر سے برساتے کہ چڑا جلا جاتا اندر کے مکس غیر محفوظ ہو کر ان کے تیروں کا نشانہ بنیں! ایسے موقعوں پر ان کی تیر باری اس شدت کی ہوتی کہ حملہ آوروں کو قلعہ کی جڑ سے بھاگنا پڑتا۔ غرضکہ اس طرح دونوں طرف سرگرمی رہی اور بار بار کے حملوں سے بھی حاصل حصول کچھ نہیں ہوا؛ البتہ کچھ لوگ تیروں سے زخمی ضرور ہو گئے! اور مدافعت کرنے والے اپنی مسلسل تیر اندازی سے حملہ آوروں کو قلعہ کی دیوار تک پہنچنے سے روکنے میں بھی کامیاب رہے۔ محاصرہ کو ۲۰ دن ہو چکے تھے!


● اوطاس کی گھائیوں میں پناہ لینے والوں پر تو قابو پایا گیا تھا اور دشمن کے اہل و عیال کو اسیر کر کے مال و زر اور مویشیوں کے ساتھ جعرانہ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس لیے آنحضرتؐ کو ادھر سے اطمینان تھا اس پہلو سے محصورین البتہ تردد و پریشانی میں تھے۔ ساتھ ہی اس کی امید قطعی نہ رہ گئی تھی کہ اوطاس والے طائف والوں کی مدد کر سکیں گے۔

نتائج | • جنگِ حنین میں چھ مسلمان شہید ہوئے۔ بنو ہوازن وغیرہ کے ۷۱ افراد مقتول اور
چھ ہزار قیدی جو بلا معاوضہ چھوڑ دیے گئے۔


• محاصرہ طائف میں دونوں طرف کے کافی لوگ زخمی ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف ۱۳
اشخاص شہید ہوئے تھے! محاصرہ کے ۶ ماہ بعد بنو ثقیف کے لوگ ازخود مدینہ پہنچ کر مشرف
اسلام ہوئے۔


• دونوں خود سر قبیلوں (ہوازن و ثقیف) کا زور باسل ٹوٹ گیا۔
• حنین کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے جو غرور مسلمانوں کے دماغ میں پیدا ہوا
تھا اللہ تعالیٰ نے اُن کی تربیت کے لیے وہیں بروقت ناقابل فراموش سزا بھی دی اور پھر
آنحضرتؐ اور مخلص ساتھیوں کے صبر و استقلال پر پوری تسلی اور غیبی مدد پہنچائی۔
(جس کا سبق آموز ذکر سورۃ التوبہ میں ہے)

نقشہ برائے جنگ جینن و اوطاس اور حاضرہ طائف



نقشه میدان حنین اور محاصره طائف کی تفصیل





غزوة تبوک — (رجب ۹ھ)

(دیکھیے نقشہ جنگ موتہ و تبوک)

جنگِ مہم کے اسباب | اُس زمانہ میں شام اور مصر عیسائی رومیوں کے ہاتھ میں تھے۔ جن کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس سلطنت کے ساتھ تو کشمکش فتح مکہ سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آنحضرتؐ نے دعوتِ اسلام کے خطوط اور وفود مختلف علاقوں کے سربراہوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیے تھے اور اس سلسلہ میں ایک وفد کے ۱۵ افراد کو اور دوسرے علاقہ میں ایک اسلامی سفیر کو مار ڈالنے پر جنگِ موتہ واقع ہوئی جو عیسائیوں کے خلاف تھی۔

• سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا واقعہ یہ ہوا کہ خود رومی فوج کے کمانڈر فرود بن عمرو الجذانی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ اپنی نوکری بھی چھوڑ دی لیکن رومیوں کے ہاتھوں وہ قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے ہزاروں کو اسلام کی اطلاقِ طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔

• نہ صرف حجاز میں بلکہ یہ دیکھ کر کہ سارا عرب اب آنحضرتؐ کے قدموں پر جھک رہا ہے عیسائی سلطنتوں میں کھلبلی مچ گئی!

• حجاز اور شام کی سرحد پر تبوک نام کا ایک مقام ہے۔ اُس کے آس پاس کچھ عرب سردار عیسائیت قبول کر کے رومیوں کی ماتحتی میں حکومت کر رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور غسانی قبیلہ تھا جس سے عرب کو خطرہ لاحق تھا اور وہی رومیوں کی طرف سے اس کام پر متعین بھی تھا۔

• دم بدم مدینہ میں یہ خبریں آتی رہتیں کہ غسانی مدینہ پر چڑھائی کی فک کر رہا ہے۔

اور شام کے نبلی سوداگروں نے (جو مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے) خبر دی کہ رومیوں نے شام میں بھاری شکر جمع کر لیا ہے۔ فوج کو مال بھر کی سزا ہیں تقسیم کر دی گئی ہیں اور اس شکر میں نخم، جذام اور عتقان کے تمام عرب قبائل شامل ہیں!

• یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں جن کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر آنحضرتؐ نے اتنی بڑی قوت سے ٹکرا لینا ضروری سمجھا۔ اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت پھر جی اٹھتی، مدینہ کے منافقین طاقت و بہتت پا جاتے اور پھر قیصر روم حملہ آور ہو جاتا۔ اس طرح یہ دعوتِ حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلہ کی گھڑی تھی۔

• البتہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ حملہ آور شکر کی مدافعت عرب کی سرحد سے باہر کی جائے تاکہ اندرون ملک امن میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو۔ اور پھر آپؐ نے کھلے الفاظ میں صاف صاف سنا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے!

مہم کی راہ میں دشواریاں | متذکرہ بالا خطرات کے پیش نظر آنحضرتؐ نے اللہ پر بھروسہ کر کے مہم کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس مہم کی راہ میں چند خصوصی دشواریاں حائل ہو گئیں؛ مثلاً یہ کہ:

- شوہر اتفاق کہ مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا اور شدت کی گرمی آگئی؛ یہ ایک امتحانی سال تھا؛
- فصلیں پک کر تیار تھیں؛ جمع کرنے کا یہی وقت تھا؛
- سفر دراز تھا (تقریباً ۱۴ دن کا)؛ بغیر سوار یوں کے ناممکن تھا؛ سواریاں نہ لوگوں کے پاس تھیں نہ آنحضرتؐ ہی فراہم کر سکتے تھے؛ (مدینہ سے خیبر و تیماء ہوتے ہوئے شاہراہ کے ذریعہ فاصلہ تقریباً ۶۸۲ کاومیٹر ہے)
- مقابلہ بھی ایک زبردست منظم طاقت سے تھا؛
- جنگی سامان بھی ناممکن و ناکافی تھا؛

لیکن باوجود ان ساری دشواریوں کے، موقع کی نزاکت کا تقاضا دیکھ کر آنحضرتؐ نے جنگ کا اعلان کر دیا اور جنگی مہم کے لیے فوج اور مالی اعانت کی اپیل بھی کی۔

اپیل پر اعانتوں کی پیشکش | سر سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے غلوں اور فراخ دل

کے ساتھ اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔

● حضرت عثمانؓ نے ۹۰ اونٹ، ۱۰۰ گھوڑے اور ۱۰۰ دینار دیا اور انہیں مجتہدین جینیش العسریۃ " (بے سرو سامان شکر کے لیے سامان فراہم کرنے والا) کا خطاب ملا۔
(درحمتہ للعالمین)

- عبدالرحمن بن عوفؓ نے ۴۰ ہزار درہم دیا۔ (درحمتہ للعالمین)
- عمرؓ نے تمام اثاثا البیت نقد و جنس کا نصف (جو کسی ہزار روپیہ تھا) پیش کیا۔
- ابوبکرؓ جو کچھ لائے اگرچہ قیمت میں کم تھا مگر معلوم ہوا کہ گھرمین فقط اللہ اور رسولؐ کی محبت چھوڑ کر آئے ہیں اور کچھ نہیں؟
- غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک کھیت کی سیرابی کی مزدوری میں ۴ سیر چھوارے پائے تھے جس میں سے نصف گھر پر بیوی بچے کے لیے چھوڑ کر ڈوسیر لائے تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کے دو سیر چھواروں کی بڑی قدر کی اور جملہ قیمتی مال و متاع پر بکھیر دیا!
- عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔

یہ موقعہ ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا۔ جنگ تبوک کا اعلان

منافقین اور دشمن ایجنٹوں کا پردہ فاش

منافقین کو بے نقاب کرنے میں نہایت کارگر ثابت ہوا۔ سرفروش و انیٹروں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے اُمنڈا اُمنڈا کر آنے شروع ہوئے اور جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ اپنی محومی پر روویے (جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے) اُن کے برخلاف جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اعلان جنگ سے ہی ان کی جان نکل گئی۔ طرح طرح کے جیلے بہانے کر کے آنحضرتؐ سے رخصت مانگے۔ آنحضرتؐ نے بھی ایسے تمام لوگوں کو رخصت دے دی۔

یہ منافقین دوسروں کو بھی روکتے اور ورغلاتے رہے کہ گرمی سخت ہے کیا جا کر جان دینا ہے؟ بھلا رومی سلطنت کے مقابلے میں یہ تھوڑے سے مسلمان کیا کریں گے؟ جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ سوایم ایک یہودی تھا جس کے گھر پر منافقین جمع ہو کر پلان

بناتے۔ چنانچہ تبوک پر روانگی سے پہلے آنحضرتؐ نے سوئیم کے گھر میں آگ لگوا دی۔

اس طرح ان منافقوں نے ایک مسجد بھی (مسجد ضرار) بنالی تھی۔ جہاں نماز کے بہانے جمع ہو کر اسی قسم کا مشورہ کیا کرتے۔ اور یہاں تک طے کر لیا تھا کہ تبوک کی جنگ کا فیصلہ جلد ہی شکست کی شکل میں ہونے والا ہے اور عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جائے گا۔

آنحضرتؐ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ایک عیسائی راہب ابو عامر کی درویشی اور علم کا مدینہ میں بڑا چرچا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اس نئی تحریک کے مقابلہ میں اس کی درویشی اور رہبانیت کا سکہ نہیں چل سکے گا اس لیے وہ تحریک اسلامی کا سخت مخالف بن گیا تھا! بدر کی جنگ میں قریش کی شکست پر وہ تلملا اٹھا، اٹھ اور احزاب کے حملے میں مسلمانوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑی اس میں اس کا بہت کچھ دخل تھا۔ اور اب اس نے روم کا سفر اختیار کیا کہ قیصر کو جا کر متوجہ کرے کہ وہ اس اٹھتے ہوئے طوفان کو روکنے کے لیے حتی الوسع کوشش کرے! مسجد ضرار کی تعمیر کے لیے بھی ابو عامر نے مشورہ دیا تھا۔

سفر تبوک کے لیے روانگی | جنگ موتہ میں تو آنحضرتؐ خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن اس مہم میں تو آپؐ خود قیادت فرمانے والے تھے۔

اس لیے مدینہ میں سبّاع بن عرقطہ کو خلیفہ مقرر کیا اور اہل بیت کی حفاظت اور نگرانی کے لیے حضرت علیؑ کو مامور فرما کر جب ۹۰ھ میں آنحضرتؐ ۳ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں ۱۰ ہزار سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی قلت تھی کہ ۱۸ آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ رُسد کے نہ ہونے سے اکثر جگہ درختوں کے پتے کھانے پڑے جس سے ہونٹ سوز گئے تھے، گرمی کی شدت تھی ہی۔ بعض بعض جگہ تو پانی ملا ہی نہیں۔ سواری کے لیے اونٹوں کی کمی کے باوجود اونٹ ذبح کر کے پانی پیایا گیا، ایک مقام پر آپؐ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد استسقاء کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آسمان پر بار دل چھا گئے۔ بارش ہوئی سمیوں نے سیرابی حاصل کر لی۔ ایسی تھی اور بے سرو سامانی کے ساتھ یہ شکر سفر کر رہا تھا۔ راستے ہی میں حضرت علیؑ پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ منافقین نے انہیں بار بار چڑھایا اور بزدلی کی غیرت دلائی۔ تب یہ اکیلے بھاگ کر آئے۔ پاؤں متورم ہو گئے اور چھالے بھی پڑ گئے۔ تب

آنحضرتؐ نے اس طرح سمجھایا کہ "علیؑ تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰؑ کے لیے ہارون تھے؛ گو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔" یہ سن کر علیؑ خوش و خرم مدینہ واپس تشریف لے گئے؛ اور یہ شکر صبر و استقلال کے ساتھ ساری صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے وادیِ احقر پارک کے تبوک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر نے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹالی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے۔

مد بھیر کیوں نہ ہوئی؟ قیصر کے ایجنٹ اور مدینہ کے منافقین آنحضرتؐ کی ساری تیاریوں بے سرو سامانی کے باوجود عزم سفر کی خبریں پہنچاتے رہے قیصر نے تو پہلے فوج جمع کرنی شروع کر دی تھی لیکن اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی جب آنحضرتؐ مقابلہ پر پوری مستعدی سے پہنچ گئے تو اس کے سامنے یہ نقشہ آگیا — کہ جنگِ موتہ کے موقع پر صرف ۳ ہزار کے اسلامی لشکر نے ایک لاکھ کا مقابلہ کس پامردی سے کیا تھا جبکہ قیادت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی اور اب تو اسلامی لشکر میں تیس ہزار کی قوت ہے اور قیادت خود آنحضرتؐ کر رہے ہیں۔ اگر پانسہ پلٹ گیا تو قیصر کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ قیصر میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ چند لاکھ بھی لے کر میدان میں آجائے۔ وہ اتنا مرعوب ہو گیا کہ اس کے سامنے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹالینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا؛ قیصر کے اس فیصلے تک پہنچنے میں ان قبائل کی کمزوری کے مظاہرے بھی تھے جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ قیصر کی مدد میں پیش پیش تھے۔ یعنی فسانِ لخم و جذام وغیرہ!

اس اخلاقی فتح کو آنحضرتؐ نے اس مرحلہ میں کافی سمجھا اور تبوک سے آگے بڑھ کر شام کی سرحد میں داخل ہونا اپنی حکمت عملی کے خلاف اور نامناسب جانے دوسرے ذرائع سے ممکن العمل حربی و سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی۔

رومی لشکر کے پیچھے ہٹ جانے سے اس کے حلیفوں پر بڑا اثر پڑا!

تبوک میں ۲۰ دن قیام کی اہمیت ۲۰ دن تبوک میں ٹھہر گئے اور اس قلیل سی مدت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنتِ روم اور اسلامی حکومت کے درمیان واقع تھیں اور رومیوں کے زیر اثر تھیں

اسلامی حکومت کا مطیع اور باجگزار بنایا۔ اس طرح جو عرب قبیلے قیصر روم کا ساتھ دیتے تھے اب وہ اسلامی حکومت کے مددگار و معاون بن گئے۔

• ایلکے پاس ایک چھوٹی سی ریاست عربوں کی تھی جس کے عیسائی رئیس یوحنا بن روینے خدمتِ نبویؐ میں ماضی دی اور جزیہ دے کر مسلمانوں کی حفاظت میں رہنا منظور کیا۔

• اسی طرح مقنا، جرہا، اور اذرح کے نصرانی رؤسائے بھی جزیہ دے کر مدینہ کے تابع رہنا پسند کیا۔

• دومتہ الجندل کا عرب سردار اکید بن عبد الملک کنزی عیسائی ہو کر قیصر روم کے اثر میں تھا۔ مسلمانوں نے چار سو سواروں کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر خدمتِ نبویؐ میں لائے۔ اُس نے اس شرط پر رہائی پائی کہ وہ مدینہ آکر صلح کی شرطیں پیش کرے۔ چنانچہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آیا اور امان پائی۔

• اتنے فیاضانہ معاہدات کے بعد اسلامی مملکت کی سرحد پر امن قائم رہنے کی پوری امید بندھ گئی۔ اس لیے اب مدینہ واپسی کا قصد کر لیا۔

• اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ کسی طویل کشمکش میں الجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تبوک سے آنحضرتؐ مدینہ واپس نہیں پہنچے تھے (سفر میں ۴ دن لگتے تھے) کہ راستہ ہی سورۃ التوبہ کی کچھ آیات کا نزول ہوا۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ایسی ہدایات سے سرفراز فرمایا جن پر آپؐ کو مدینہ پہنچ کر عمل کرنا تھا۔

• بخیر واپسی پر مدینہ کے مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی۔ استقبال کے لیے لوگ بڑے شوق سے شہر کے باہر نیتہ الوداع تک نکل آئے۔ عورتیں اور لڑکیاں بھی نکل آئیں۔ اور لڑکیوں نے خیر مقدم کا وہی گیت دہرایا جسے ہجرت کے موقع پر گایا تھا۔

” طَلَعُ الْبَدْرِ عَيْنِنَا
مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
مَا دَعَا إِلَهُ دَاعٍ “

• غزوة تبوک کے موقع پر جہاں آپؐ نے سورہ وقت کی نماز ادا فرمائی تھی بعد میں وہاں ایک

مسجد بطور یادگار بن گئی جو آج بھی ہے۔

تیبوک سے واپسی کے بعد | جانے آنے اور قیام تیبوک میں تقریباً ۵۰ دن لگ گئے تھے تیبوک کی فتح بلا جنگ نے عرب میں اُن تمام لوگوں کی کمر توڑ دی جو خوش گمانی

میں طرح طرح کی آس لگائے بیٹھے تھے! جس جرأت کے ساتھ آنحضرتؐ ۳۰ ہزار کا لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپؐ کے مقابلہ پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر اپنی اور آپؐ کے دین کی دھاک بٹھادی اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تیبوک سے واپس آتے ہی حضورؐ کے پاس عرب کے گوٹے گوٹے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے۔ تقریباً ۷۰ وفد آئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے:

إِذَا جَاءَ كُفْرُ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْعُونَ نِيَّ دِينَ اللَّهِ أَتَوْا

دیکھ یا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔

- واپسی پر سب سے پہلا کام آنحضرتؐ نے یہ کیا کہ مسجدِ ضرار کو ڈھانے اور جلانے کا حکم دے دیا۔
- منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اُن میں سے کوئی مر جائے تو نبیؐ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اور مسلمان اُن سے خلوص اور دوستی کا معاملہ نہ رکھیں۔
- تیبوک کی جنگ کے موقع پر کچھ ایسے مومنین بھی پیچھے رہ گئے جن سے کسی وقتی کمزوری یا سستی کی بنا پر یہ کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے کافی سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ اس ذیل میں ۲ صحابہ کرام — کعب بن مالکؓ، ہلال بن امیہؓ اور مرارہ بن زہجؓ کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے — ان سے سختی کے ساتھ باز پرس ہوئی۔ اور آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے اور ۴۰ دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی اُن سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ ۵۰ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی معافی کا حکم نازل فرمایا (سورہ التوبہ) — اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے معنی محض زبانی اقرار نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کی راہ میں تین تین دھن کی بازی لگانا دینی ہے!

حج اکبر

(۹)

آب وقت آگیا تھا کہ اسلامی حکومت کی داخلی پالیسی کا واضح اعلان کر دیا جائے چنانچہ ذیقعدہ یا ذوالحجہ ۹ھ میں آنحضرتؐ نے مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے فریضہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ اُس قافلہ کے سالار ابو بکرؓ بنائے گئے۔ اور نقیب حضرت علیؓ ہوئے۔ حاجیوں کے عام مجمع میں نقیب نے یہ اعلان کیا کہ —

- (۱) جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے۔
- (۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہ آوے۔
- (۳) بیت اللہ کے گرد ننگے ہو کر طواف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
- (۴) جن لوگوں کے ساتھ آنحضرتؐ کے معاہدات ہیں وہ اپنی مدت تک برقرار رہیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ لیکن خلاف ورزی کرنے والوں کو صرف ہمہینے کی مہلت دی جاتی ہے یا تو وہ لڑ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیں یا پھر سوچ کر اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔

اس واضح پالیسی کی روشنی میں یہ پہلا موقعہ تھا کہ کعبہ شرف کی ظلمت سے پاک ہو کر عباداتِ ابراہیمی کا مرکز قرار پایا اور مناسک و رسوم حج کی عام طور سے تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا۔ قرآن نے اس حج کو "حج اکبر" کہا ہے۔

رسول کریمؐ کی جنگوں کا جائزہ

رسول کریمؐ کی تقریباً ساری قابل ذکر جنگوں کا تذکرہ آگیا۔ ان تفصیلات سے رسول اللہؐ کی جنگی اسکیم کا نقشہ صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اپنی نوعیتوں کے اعتبار سے یہ جنگیں واقعی غیر معمولی طور سے ممتاز و بے نظیر ہیں۔ جیسا کہ شروع ہی میں بیان کیا گیا تھا یہ ساری جنگیں ایسی تھیں جن میں رسول کریمؐ نے خود اقدام نہیں کیا نہ وہ خواہ مخواہ کسی سے لڑائی مول لینی چاہتے تھے۔ تقریباً ساری جنگیں دفاعی تھیں اور ناگزیر حالات میں آپؐ کو قدم اٹھانا پڑا تھا۔

شروع سے آخر تک ساری جنگوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کے پاس ہمیشہ ایک طرف سامان کی قلت رہی تو دوسری طرف آدمیوں کی تعداد کی کمی (سوار ایک جنگِ خنین کے جس میں پہلی بار تعداد زیادہ ہوئی تو کچھ صحابیوں کے دل میں غرور کی ذرا سی لہراگئی جو اللہ کو پسند نہ تھی جس کی وجہ سے خیازہ بھی بھگتنا پڑا) لیکن کس حکمتِ عملی سے اور کس تدبیر سے آپؐ نے اس بے سرد سامانی اور قلتِ تعداد کے ساتھ بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرائے۔ جنگِ بدر کے بعد سے آپؐ نے جس چیز کا ہمیشہ لحاظ رکھا وہ یہ تھی:

اور ان کے مقابلے کے لیے جس قدر تمہارے امکان	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
میں ہو قوت اور رباط الخیل مہیا رکھو۔ اس سے	قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے	بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْأَخْرَبِينَ
سوا ان دو برے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے	مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ جَاءَ اللَّهُ
مگر اللہ انہیں جانتا ہے، امرِ عوب و خوفزدہ کرو گے	يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّيٰ اِيْكُمْ وَاَنْتُمْ
لَا تظْلَمُوْنَ ۝

اس کام میں جو کچھ تم فی سبیل اللہ خرچ کرو گے وہ
تمہیں پورا کا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر
ظلم نہیں کیا جائے گا

(انفال: ۶۰)

اس کے ساتھ ساتھ دوسری حربی تدابیر مثلاً دشمن کی تیاری، اس کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، میدانِ
جنگ اور پڑاؤ کا مناسب تعین، اپنی نقل و حرکت کا ایسا مظاہرہ کر اپنی حقیقی کمزوری دشمن پر ظاہر نہ
ہونے پائے۔

تمام جنگوں سے ثابت ہے کہ ان ساری تدابیر کے ساتھ سب سے بڑی قوت جو ہر نازک موقع پر
کام آئی وہ اخلاقی قوت تھی جس کی تربیت آنحضرتؐ ہر موقع پر اپنے صحابیوں کو دیتے رہتے تھے اور
خود اپنے کردار، عملی نمونہ اور پورے اسوہ کے ذریعہ پیش کرتے رہتے تھے۔ اس طرح ہر مصیبت پر
بروقت اقدام، مستعدی، صبر و استقلال اور توکل علی اللہ کے ذریعہ بعض مشکلیں آسان ہو جاتیں
جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آپؐ مامور من اللہ کی حیثیت سے فریضہ انجام دے رہے تھے۔
آپؐ کی سیاست عبادت کی مانند پاکیزہ تھی۔ پھر کیوں نہ آپؐ کو تائیدِ خداوندی حاصل ہوتی ؟
چنانچہ کچھ جنگوں میں بالکل نمایاں طور پر غیبی امداد پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی (جن کا ذکر قرآن کریم
میں بطور احسان کے کیا گیا ہے اور ایسے مواقع پر ایسی فوجیں اتار دی گئیں جو بظاہر نظر نہ آتی تھیں)
رسول کریمؐ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ دشمنوں کو متاثر کر دیتا تھا۔ اپنے سارے معاہدات کا ہمیشہ
پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اپنی طرف سے یہی کوشش رہتی کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اس
پہلو سے بھی بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور معاف کر دینے کا جذبہ ہمیشہ سامنے
رہا۔ چنانچہ اس کے ذریعہ دشمنوں کے کیمپ میں آپؐ نے ہمیشہ کمزوری پیدا کر دی

رسول کریمؐ کی جنگی اسکیم میں ایک اصول نمایاں طور پر کار فرما رہا کہ انسانی جان و مال کا ہمیشہ
خیال رکھا گیا۔ انسانی جان دنیا کا قیمتی سرمایہ اور قابل احترام ہے۔ ایسے کم سے کم برباد ہونا چاہیے
ہر موقع جنگ پر ہر ذمہ دار کو خصوصی ہدایات رسول کریمؐ اس سلسلہ میں ضرور دیتے تھے چنانچہ
۲۳ سال کے اندر ایسا انقلاب آیا جس میں ۳۰ سالہ تا ۸ سالہ کی قلیل مدت میں تقریباً
۸۲ جنگیں ہوئیں (سرایا ۵۵ — عزوات ۲۷) جن میں طرفین کا جانی نقصان (شہداء و

مقتولین ملا کر مشکل سے ۶۰۰ ہوا۔ جبکہ آپ کے بالمقابل کفارِ قریش، پھر یہودیہ پھر احزاب اور بالآخر دنیا کی مشہور رومن ایپاٹر کی طاقت کا چیلنج آیا۔ اور زیادہ تر توڑٹ کر مقابلہ ہی ہوا کیا دنیا کی تاریخ کوئی ایسا انقلاب پیش کر سکتی ہے جس میں جنگیں بھی ہوئی ہوں اور خون نہ بہا؟ یا اتنا کم بہا ہو؟

”رسولِ اکرم کی حکمتِ انقلاب“ (از سید اسعد گیلانی) کے حوالے سے انقلاباتِ عالم کے جانی نقصانات کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں:

- (۱) مہا بھارت کی مذہبی جنگ ————— اُن کی اپنی روایات کی رو سے کروڑوں کی تعداد
- (۲) فرانس کا جمہوری انقلاب ————— تقریباً ۶۶ لاکھ انسان بھینٹ چڑھائے گئے۔
- (۳) روس کا اشتراکی انقلاب ————— ایک کروڑ سے زائد انسانوں کا خون بہایا گیا
- (۴) جنگِ عظیم اول ————— تمام ممالک میں ملا کر ۴۳ لاکھ سے زائد
- (۵) جنگِ عظیم دوم ————— ۱۰۶ لاکھ سے زائد

اس حیثیت سے رسولِ کریم کی جنگوں کا سلسلہ جیسا کہ شروع ہی میں بتایا گیا تھا اور ساری جنگوں کی تفصیلات کے مطالعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، کیا آپ کے اسوۂ حسنہ کا ایک اہم اور نہایت ہی سبق آموز باب نہیں ہے؟ کاش دنیا اب بھی اس کا بغور مطالعہ کرنے اور سبق حاصل کر کے فائدہ اٹھائے!

حجۃ الوداع (حجۃ الابلان)

رسالہ

۸ سال تک تو آنحضرتؐ ان جنگوں کے سلسلہ میں بے حد مصروف رہے اور آہستہ آہستہ اپنے (اندرونی و بیرونی) دشمنوں پر قابو پاتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اس وقت کی ساری مقابلہ طاقتوں کی تسخیر تقریباً مکمل ہو گئی۔ قدرتی طور پر اب ایک ایسا عالمی اجتماع ہونا ضروری تھا جسے حجۃ للعالمینؐ خود خطاب فرماتے! اور اسلام کا پیغامِ محبت پیش کرتے۔

چنانچہ ذیقعدہ سنہ ۶ میں اعلان کیا گیا کہ آنحضرتؐ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی اور اس مبارک موقع پر آنحضرتؐ کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب اُمنڈ آیا۔ ذیقعدہ کی آخری تارِ نخوں میں آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحجہ کی ہر تاریخ کی صبح مکے تشریف لے آئے۔

جب ۹ ذوالحجہ کی سہ پہر کو آپ عرفات تشریف لائے تو سارے عرب کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نامزدہ انسانوں سے میدان کھپا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور پورا مجمع ہمہ تن گوش تھا! اونٹ پر سوار ہو کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ جو الفاظِ آپ کے دہن مبارک سے نکلے تھے وہ باوازِ بلند ہر اذیے جاتے تھے تاکہ انبوا کثیر کی آخری حد تک پہنچ جائیں۔ اہم ہدایات میں سے کچھ یہ تھیں:

سُن رکھو جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں
عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم

مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔

- مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
- تمہارے غلام! تمہارے غلام! جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ جو خور پیو وہی ان کو پیناؤ۔
- عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔
- تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے (قابل احترام)
- میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔

• "تم سے خدا کے یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟" صحابہ رضی عنہم نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ "آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا" پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ۳ بار فرمایا: "اے اللہ تو گواہ رہنا"

رسول کریم ﷺ سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ اس آیت کا نزول ہوا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل
کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے
تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا۔

اس حج کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے حج کے تمام طریقے خود برت کر دکھائے کہ حج کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ "مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔"

پھر آپ نے تمام حج سے یہ بھی فرمایا: "جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔"

اس حج کا نام "حجۃ البلاغ" بھی ہے اور "حجۃ الوداع" بھی ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

کتابیات

(BIBLIOGRAPHY)

- (۱) قرآن کریم
- (۲) تفہیم القرآن (مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ)
- (۳) صحیح بخاری - تخرید بخاری
- (۴) سیرت النبیؐ (شہیل نعمانیؒ)
- (۵) رحمۃ العالمین (قاضی سلیمان منصور پوری)
- (۶) رحمت عالمؐ (سید سلیمان ندویؒ)
- (۷) حیات طیبہؐ (مولانا عبدالحمید)
- (۸) محمد احمد باشمیل کی کتاب محمدؐ کی جنگوں پر
- (۹) عہد نبویؐ کے میدان جنگ (ڈاکٹر حمید اللہ)
- (۱۰) حدیث دفاع (میسر جنرل اکبر خاں)
- (۱۱) آئینہ عرب
- (۱۲) رسول کریمؐ کی حکمت انقلاب (محمد اسعد گیلانی)
- (۱۳) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (لاہور)
- (۱۴) (MOHAMMAD THE PROPHET BY
MOHAMMAD ALI)
- (۱۵) المنجد

- (۱۶) تاج العروس
- (۱۷) لسان العرب
- (۱۸) المفردات (امام راغب)
- (۱۹) THE HISTORY OF GREECE BY. J. B. BURY.
- (۲۰) بائبل کے نقشے
- (۲۱) انگریزی اور اردو اٹلس
-

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

جنگی اسکیم

عبدالباری ایم اے

تاشیران و قاجران کتب

غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

نقصیل
ایم